



GAS 400 A Professional


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 91L (2024.01) T / 115







1 609 92A 91L




- en Original instructions
- fr Notice originale
- pt Manual original
- es Manual original
- pt Manual de instruções original
- zh 正本使用说明书
- zh 原始使用說明書
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar دليل التشغيل الأصلي
- fa دفترچه راهنمای اصلی



English	Page	9
Français	Page	17
Português	Página	27
Español	Página	36
Português do Brasil	Página	45
中文	頁	54
繁體中文	頁	61
ไทย	หน้า	69
Bahasa Indonesia	Halaman	78
Tiếng Việt	Trang	87
عربي	الصفحة	96
فارسی	صفحه	105





(27)



(22)




(23)








(28)
















(29)





(31)









English

Safety information for vacuum cleaners



Read all the safety information and instructions. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental impairments. It should not be used by persons who have insufficient experience and knowledge.** Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

► **Comply with all safety provisions for the substances being extracted.**

► **Do not vacuum beech or oak wood dust, rock dust or asbestos.** These substances are considered carcinogenic.

⚠ WARNING Only use the vacuum cleaner if you have been adequately informed about the use of the equipment, the substances to be vacuumed and how to dispose of these safely. Thorough instruction on how to use the equipment prevents accidental misuse and injuries.

⚠ WARNING The vacuum cleaner is suitable for vacuuming dry substances, and can also be used to vacuum liquids when taking appropriate measures. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

⚠ WARNING Only use the socket for the purpose stipulated in the operating manual.

⚠ WARNING If you notice a foam or water leak, switch off the vacuum cleaner im-

mediately and empty the container. Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

► **NOTE: The vacuum cleaner must only be stored indoors.**

► **NOTE: Clean the liquid fill level sensors regularly and check whether they are damaged.** Otherwise, the equipment may not function properly.

► **If operating the vacuum cleaner in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD).** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

► **Always check the vacuum cleaner, cable and plug before use. Do not use the vacuum cleaner if you discover any damage. Do not open the vacuum cleaner yourself. It should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** Damaged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk of electric shock.

► **Do not crush the cable or run the device over it. Do not pull on the power cable to pull the plug out of the socket or to move the vacuum cleaner.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.

► **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

► **Ensure that the workplace is well ventilated.**

► **The vacuum cleaner should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** This will ensure that the safety of the vacuum cleaner is maintained.

⚠ WARNING The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner unless the complete filter system is correctly inserted. Otherwise, you are putting your health at risk.

► **Before using the equipment for the first time, check that the vacuum hose is in perfect condition. Leave the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while doing this so that no dust escapes accidentally.** Otherwise, you may end up inhaling dust particles.

► **Do not sit on the vacuum cleaner.** You can damage the vacuum cleaner this way.

► **Take care when using the power cable and the vacuum hose.** Improper use of these can put other people at risk.

► **Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of water directly at it.** Water entering the top of the vacuum cleaner will increase the risk of electric shock.

► **Connect the dust extractor to a properly earthed power supply system.** The plug socket and extension cable must have a fully functioning protective conductor.

- ▶ **Do not use the socket on the vacuum cleaner when wet vacuuming or in the humid condition.** Contact with water poses a risk of short circuit or electric shock.

Symbols

The following symbols may provide you with important information pertaining to the use of your dust extractor. Please take note of these symbols and their meaning. Knowing what these symbols mean will help you to use your extractor more effectively and more safely.


Symbols and their meaning



WARNING! Read all the safety and general instructions. Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Dust extractor from dust class L in accordance with IEC/EN 60335-2-69 for the **dry extraction** of harmful dusts with an exposure limit of $> 1 \text{ mg/m}^3$



WARNING! The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health. Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the dust extractor unless the complete filter system is correctly inserted. Otherwise, you are putting your health at risk.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Only attach a maximum of one L-BOXX.

The weight of the L-BOXX along with its contents must not exceed 15 kg.




Do not hang the dust extractor on a crane hook, e.g. in order to transport it. The dust extractor is not suitable for moving with a crane. There is a risk of injury and damage if you do this.



Do not sit or stand on the dust extractor. The dust extractor may tip over and become damaged if you do this. This poses a risk of injury.

Symbols and their meaning



A

A

Automatic filter cleaning mode indicator LED

M

M

Manual filter cleaning mode indicator LED



Button for automatic filter cleaning



Button for manual filter cleaning



Automatic start/stop function

Extracts dust that accumulates from working power tools; the dust extractor switches on automatically and off again with a time delay. The plug socket on the dust extractor is constantly live.



Switching off

The plug socket on the dust extractor is without power.



Extraction

Extracting dust deposits and dust from the extraction system. The plug socket on the dust extractor is constantly live.



Min/Max

Continuous regulation of suction power:

- Maximum suction power for applications with a high level of dust generation
- Reduced suction power for applications that generate a low level of dust, and also to regulate the suction between the connected power tool and the surface of the workpiece (e.g. when sanding)



Data logging is activated in this dust extractor.

**max.
2100 W
min.
100 W**

Permitted connected load of the connected power tool (country-specific)

Product Description and Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The dust extractor is intended for collecting, vacuuming, conveying and separating non-flammable dry dusts and non-flammable liquids. The dust extraction capability of the dust extractor has been tested and corresponds to dust class L. It is suitable for the increased demands in professional use, e.g. in trade, industry and workshops.

Dust extractors from dust class L in accordance with IEC/EN 60335-2-69 may only be used to vacuum and extract harmful dust with an exposure limit of $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all functions and carry them out without restrictions, or if you have received corresponding instructions.

Product Features

The numbering of the product features refers to the representation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

- (1) Container
- (2) Main switch
- (3) Hose adapter
- (4) Plug socket for power tool
- (5) Indicator LED **A**: Automatic filter cleaning mode
- (6) Indicator LED **M**: Manual filter cleaning mode
- (7) Button for manual filter cleaning
- (8) Button for automatic filter cleaning
- (9) Suction power regulator
- (10) Carrying handle
- (11) L-BOXX holder
- (12) Top part of dust extractor
- (13) Pull strap
- (14) Fastening opening
- (15) Catch for top part of dust extractor
- (16) Wheel
- (17) Castor
- (18) Castor brake
- (19) Cable holder
- (20) Guide rails for the retractable guide handle
- (21) Rear handle section
- (22) Combi brush nozzle
- (23) Combi power tool adapter
- (24) Closing flap for filter cover
- (25) Pre-filter cover
- (26) Pre-filter release button
- (27) Vacuum hose

- (28) Curved nozzle
- (29) Plastic bag
- (30) Air passage opening
- (31) Flat-pleated filter
- (32) Vacuum hose snap fastener
- (33) PowerTool adapter (front part)
- (34) PowerTool adapter (rear part)
- (35) Combi brush nozzle release button
- (36) Fleece filter bag holder^{a)}
- (37) Fleece filter bag^{a)}
- (38) Guide handle snap fastener^{a)}
- (39) Retractable guide handle^{a)}
- (40) Filter cover for flat-pleated filter
- (41) Pre-filter
- (42) Fill level sensor
- (43) Float
- (44) Float locking mechanism
- (45) Magnet

a) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

Technical data

Wet/dry dust extractor	GAS 400 A	
Article number	3 601 JMO 0..	
Rated voltage	V	220–240
Rated power input	W	1200
Frequency	Hz	50–60
Container volume (gross)	l	40
Net volume (dry)	l	28
Net volume (liquid)	l	20
Max. vacuum ^{A)}		
– Dust extractor	hPa	220
– Turbine	hPa	240
Max. flow rate ^{A)}		
– Dust extractor	l/s	31
	m ³ /h	111.6
– Turbine	l/s	80
	m ³ /h	288
Dust class		L
Weight ^{B)}	kg	14,0
Protection class		⊕/I
Protection rating		IPX4

A) Measured using a vacuum hose 4 m long and 28 mm in diameter

B) Weight without mains connection cable and without mains plug
Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit www.bosch-professional.com/wac.

Automatic start/stop			
3 601 JMO ...	Rated voltage	Maximum power	Minimum power
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/ OK0/OE0	220–240 V	2100 W	100 W
OLO	220–240 V	1660 W	100 W
OH0/ONO	220–240 V	1000 W	100 W

Permitted connected load of the connected power tool.
These values can differ for other country-specific models. Please take note of the information on the socket of the dust extractor.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to **EN 60335-2-69**.

Typically the A-weighted sound pressure level of the dust extractor is **73 dB(A)**. Uncertainty $K = 2$ dB. The noise level when working can exceed the volume stated. **Wear hearing protection!**

Vibration total values a_h (triaux vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 60335-2-69**:
 $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

Assembly

► **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

Fitting the vacuuming accessories (see figure A)

The vacuum hose (27) has a clip system that can be used to connect vacuuming accessories (combi power tool adapter (23), curved nozzle (28), combi brush nozzle (22)).

Fitting the curved nozzle

- Push the curved nozzle (28) onto the vacuum hose (27) until you hear both snap fasteners (32) on the vacuum hose engage.
- To remove the adapter, press the snap fasteners (32) inwards and pull apart the components.

Fitting the combi power tool adapter

The combi power tool adapter (23) consists of the PowerTool adapter (front part) (33) and the PowerTool adapter (rear part) (34).

The combi power tool adapter (23) is compatible with Bosch power tools.

With an inner diameter of 38.5 mm and an outer diameter of 45 mm, the PowerTool adapter (rear part) (34) can be used for power tools manufactured by other brands.

Place the PowerTool adapter (front part) (33) on the PowerTool adapter (rear part) (34) and connect both adapters by twisting them in opposite directions (see figure B).

Push the combi power tool adapter (23) onto the vacuum hose (27) until you hear both push buttons (32) on the vacuum hose click into place.

To remove the adapter, press the push buttons (32) inwards and pull the combi power tool adapter out of the vacuum hose.

To separate the two adapters, loosen the connection by twisting in opposite directions and pulling the adapters apart.

Fitting the Combi Brush Nozzle

Push the combi brush nozzle (22) onto the vacuum hose (27) until you hear both push buttons (32) on the vacuum hose click into place.

To remove the adapter, press the snap fasteners (32) inwards and pull apart the components.

Adjusting the Combi Brush Nozzle (see figure C)

You can use the combi brush nozzle (22) as a crevice nozzle or brush.

Press the release button (35) and push the brush forwards to use the combi brush nozzle (22) as a brush.

Press the release button (35) and pull the brush backwards to use the combi brush nozzle (22) as a crevice nozzle.

Fitting the vacuum hose (see figure D)

Attach the vacuum hose (27) to the hose adapter (3) and turn it clockwise as far as it will go.

Note: The friction generated by the dust in the vacuum hose and accessory during extraction causes an electrostatic charge that the user may experience as static discharge (depending on environmental factors and their physiological state).

Bosch generally recommends using an anti-static vacuum hose (accessory) to vacuum up fine dust and dry materials.

Attaching the Vacuum Hose to the Dust Extractor (see figure E)

Wrap the fitted vacuum hose (27) into the compartment for the vacuum hose. Pull up both pull straps (13) and hook them into the fastening openings (14).

Inserting/removing the plastic bag (dry extraction) (see figure F)

Open both catches (15) and remove the top part of the dust extractor (12).

For dry extraction, insert a plastic bag (29) into the container (1).

Insert the plastic bag (29) into the container (1) with the inlet facing upwards.

Make sure that the plastic bag (29) touches all the inside walls of the container (1).

Fold the rest of the plastic bag (29) over the edge of the container (1). Make sure that the stop line of the plastic bag is positioned at the edge of the container and the air passage openings (30) are still in the container.

Put the top part of the vacuum cleaner (12) back on and close the vacuum cleaner using the catches (15).

- **Ensure that the dust extractor is always properly closed.**

Seal the plastic bag **before** you remove it. Hold the bag together at the top and use a cord to tie up the bag.

Inserting/Removing the Fleece Filter Bag (Dry Extraction) (see figures G-H)

A fleece filter bag (37) (accessory) must be used for the dry extraction of dust class L materials.

Insofar as materials with or without an exposure limit of $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (dust class L materials) are extracted, these can be sucked straight into the container.

Note: Switch off the automatic filter cleaning when using the fleece filter bag (see "Automatic/Manual Filter Cleaning (see figure M)", page 15).

⚠ WARNING The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner unless the complete filter system is correctly inserted. Otherwise, you are putting your health at risk.

Open the catches (15) and remove the top part of the dust extractor (12).

For inserting put the fleece filter bag (37) on the fleece filter bag holder (36) and insert the fleece filter bag (37) with the fleece filter bag holder (36) into the container (1).

For removing close the opening of the full fleece filter bag by pulling the catch. Pull the sealed fleece filter bag (37) out of the fleece filter bag holder (36) and remove it from the dust extractor.

Put the top part of the dust extractor (12) back on and connect the container (1) with the top part of the dust extractor (12) by closing the catches (15).

Attaching the L-Boxx (see figure I)

You can attach an L-Boxx to the top part of the dust extractor for transporting the extractor and to provide space-saving storage for extractor accessories and/or the power tool.

Attach the vacuum hose to the dust extractor (see figure E).

Click the L-Boxx onto the holders (11).

- **Do not use the dust extractor with an L-Boxx attached.** This will raise the dust extractor's centre of gravity. The extractor may tip over. There is a risk of injury and damage if you do this.
- **Do not carry the dust extractor by the carrying handle of the attached L-Boxx.** The dust extractor is too heavy for the carrying handle of the L-Boxx. There is a risk of injury and damage if you do this.

Installing the Retractable Guide Handle (Accessory) (see figures J-K)

Note: The retractable guide handle cannot be removed. When assembling, ensure that the guide handle is aligned correctly.

Before inserting the guide handle (39), align it using the R (right) and L (left) markings.

Insert the guide handle (39) into the guide rails (20).

Press the guide handle (39) down to the stop line until the guide handle audibly clicks into place.

Press the snap fastener (38) to change the length of the guide handle (39).

Operation

- **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

Start-up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the vacuum cleaner.
- **Make sure you inform yourself about the applicable regulations/laws on how to handle harmful types of dust in your country.**

The dust extractor may be used for vacuuming and extracting the following materials:

- Dusts with an exposure limit of $> 1 \text{ mg/m}^3$
- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

The dust extractor must categorically not be used in potentially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully unwind the vacuum hose (27) from the top part of the dust extractor (12).

Adjusting the Suction Power

You can adjust the suction power to a continuously variable degree using the suction power regulator (9).

Set the suction power regulator (9) to maximum suction power when completing applications that generate a high level of dust.

Set the suction power regulator (9) to the reduced suction power position when completing applications that generate a low level of dust, and also to regulate the suction between the connected power tool and the surface of the workpiece (e.g. when sanding).

Plug socket on the dust extractor

- **Observe the permitted connected load of the plug socket on the dust extractor. Exceeding the maximum permitted connected load can cause the dust extractor to be overloaded. The motor protection device**

will be triggered. Send the dust extractor to an authorised **Bosch** after-sales service centre.

The plug socket for power tools (4) is live as soon as the mains plug of the dust extractor is plugged into the socket and the main switch is in position 1. It can be used as an external power connection on the dust extractor, e.g. when working with extraction systems. In position 1+, the automatic start/stop feature of the dust extractor is activated. The dust extractor can be switched on remotely via the connected power tool.

Dry vacuuming

Vacuuming up dust deposits



To **switch on the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 1.



To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

Extracting dust that accumulates from working power tools (see figure L)

- **There must be a sufficient air exchange rate in the room when the exhaust air comes back into the room. Be aware of the corresponding national regulations.**

The dust extractor has an integrated plug socket for power tools (4), which can be used to connect an external power tool. Observe the maximum permitted load of the connected power tool.

Fit the combi power tool adapter (23) (see figure B).

Insert the combi power tool adapter (23) into the extraction outlet of the power tool.



To switch on the **automatic start/stop feature** of the dust extractor, turn the main switch (2) to position 1+.

To **start the dust extractor**, switch on the power tool connected to the plug socket (4). The dust extractor will start automatically.

To **stop dust extraction**, switch the power tool off.

The automatic start/stop run-on function will run for up to 15 s longer in order to extract the remaining dust from the vacuum hose.



To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

Using the extraction system (accessory)



Connect the extraction system to the vacuum hose (27).

To **extract dust via the extraction system**, turn the main switch (2) to position 1.

Hold the extraction system up to the wall and switch on the power tool. The negative pressure this creates causes the extraction system to stick to the wall independently.

Switch off the power tool and carefully remove the extraction system from the wall.



To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

Wet vacuuming

- **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

- **The vacuum cleaner must not be used as a water pump.** The vacuum cleaner is designed for vacuuming air and vacuuming water mixtures.

Note: The requirements for the degree of penetration (dust class L) have only been verified for dry vacuuming.

Before Starting Wet Extraction

Empty the container (1) and remove the plastic bag (29) or the fleece filter bag (37).

Check the fill level sensor (42) for dirt. The fill level sensor must be clean in order for the dust extractor to switch off automatically when the container is full (see "Cleaning the fill level sensor (see figures Q–R)", page 16).

- **During wet extraction, the automatic filter cleaning function must be deactivated.**

Press the automatic filter cleaning button (8) to activate manual filter cleaning (see "Manual Filter Cleaning", page 15). This deactivates automatic filter cleaning and LED indicator A (5) goes out.

Vacuuming up liquids

- ⚠ **WARNING** **If you notice a foam or water leak, switch off the vacuum cleaner immediately and empty the container.** Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

To **switch on the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 1.

The dust extractor is equipped with fill level sensors (42). If the maximum fill level has been reached, the dust extractor automatically switches off and the two LED indicators A (5) and M (6) flash simultaneously once a second. Restart protection is activated and can be deactivated by switching the dust extractor on and off once.

Note: Check the fill level regularly and empty the container in good time.

To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

Hold the container (1) in the rear handle section (21) and twist it forwards to drain the liquid.

After Wet Extraction

After wet vacuuming, always clean the fill level sensor (42) (see "Cleaning the fill level sensor (see figures Q–R)", page 16).

To prevent mould growth after wet extraction:

- Remove the flat-pleated filter (31) and leave this to dry thoroughly.
- Remove the top part of the dust extractor (12), open the filter cover (40) and leave both elements to dry thoroughly.

Automatic/Manual Filter Cleaning (see figure M)

Automatic Filter Cleaning

Note: The automatic filter cleaning function is set to be on by default when the dust extractor is switched on.

The LED indicator **A (5)** will light up continuously.

When automatic filter cleaning is active, the flat-pleated filter (31) is cleaned every 15 s using 2 blasts of air (pulsating noise).

Regular use of the filter cleaning function will increase the service life of the filter.

In order to achieve an optimum filter service life, deactivate the automatic filter cleaning function only in exceptional cases, e.g. for wet extraction.

Manual Filter Cleaning

Press the automatic filter cleaning button (8) to activate manual filter cleaning. This deactivates automatic filter cleaning and LED indicator **A (5)** goes out.

Press the manual filter cleaning button (7) to run manual filter cleaning. The flat-pleated filter (31) is cleaned using 2 blasts of air. The LED indicator **M (6)** will light up white for 2 s. If LED indicator **M (6)** goes out, the next blast of air can be triggered. To do this, press the manual filter cleaning button (7) again.

Note: For manual filter cleaning, please note that the time interval between each time a button is pressed should be 2–3 s. Continuously pressing the manual filter cleaning button (7) multiple times will cause the over-temperature protection of the dust extractor to be activated. The over-temperature protection will be automatically suspended after a while (see "Rectifying Errors", page 16).

To switch off the manual filter cleaning, press the automatic filter cleaning button (8).

A flat-pleated filter with surface dirt is still fully functional. It is not necessary to clean the flat-pleated filter manually by shaking or blowing it out; this may even damage the filter.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- ▶ **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

- ▶ **To ensure safe and efficient operation, always keep the dust extractor and the ventilation slots clean.**
- ▶ **Wear a dust mask when servicing and cleaning the vacuum cleaner.**

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

For the user to carry out maintenance, the dust extractor needs to be disassembled, cleaned and maintained as far as this is possible without endangering maintenance personnel or other persons. Before disassembly, the dust extractor should be cleaned to prevent any potential hazards. The room/enclosure in which the dust extractor is disassembled should be well ventilated. Wear personal protective equipment while carrying out maintenance. After completing maintenance, the maintenance area should be cleaned. An inspection regarding the dust extraction capability must be carried out at least once a year by the manufacturer or someone who has been trained, e.g. to check for filter damage, that the dust extractor is tight and that the control unit is functioning correctly.

Class **L** vacuum cleaners which were located in dirty environments should have their exteriors, as well as all their components, cleaned or treated with sealant. When performing maintenance and repair work, all dirty parts that cannot be cleaned satisfactorily must be disposed of. Such parts must be disposed of in impermeable bags in accordance with the valid provisions for disposing of such waste.

- Clean the housing of the dust extractor occasionally with a damp cloth.

Cleaning the container

Wipe the container (1) from time to time using a non-abrasive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

Cleaning/Changing the Flat-Pleated Filter (see figures N–O)

- ▶ **Hold the filter cover by the closing flap whilst opening it, and make sure that the opened filter cover clicks into the vertical position.** There is a risk of injury if the filter cover falls down.

The suction power is dependent on the condition of the filter. Therefore, the filter should be cleaned regularly.

If the flat-pleated filter (31) becomes damaged, replace it immediately.

- Pull on the closing flap (24) and twist the filter cover (40) upwards until it clicks into the vertical position.
- Hold the flat-pleated filter (31) by the supports and take it out from above.
- Use a damp cloth to remove any dust and dirt that accrues around the edge of the container (1) when removing the flat-pleated filter (31).
- The flat-pleated filter can be rinsed out under running water.
- Insert the cleaned (or a new) flat-pleated filter (31), ensuring that it is positioned correctly and securely.

- Close the filter cover **(40)**, ensuring you hear it click into place.

Cleaning the Pre-Filter (see figure P)

► **The pre-filter must not be wet cleaned.**

- **Do not reach between the guide handle and the dust extractor from above in order to unlock to pre-filter cover.** Otherwise, your hand might get caught.

Pull the guide handle **(39)** up until the pre-filter cover is freely accessible from the rear.

Press the release button **(26)** of the pre-filter cover **(25)** and take it from the pre-filter compartment.

Remove the pre-filter **(41)**.

Brush down the flaps of the pre-filter with a soft brush.

Place the pre-filter into the pre-filter cover **(25)**.

Place the pre-filter cover **(25)** into the pre-filter compartment and fold it in.

Cleaning the fill level sensor (see figures Q–R)

Pull the dust extractor's mains plug from the plug socket.

Remove the top part of the vacuum cleaner **(12)**.

Empty the container **(1)**.

Move the float **(43)** or gently tap it to remove the dirt.

Clean the floater **(43)** using a soft cloth.

If necessary, you can also remove the float. To do this, press the locking mechanism **(44)** and remove the float **(43)**.

Clean the magnet **(45)** using a brush.

Reinsert the float **(43)**.

Storage and transport

- Wrap the power cable around the cable holder **(19)**.
- Insert the accessory into the corresponding brackets.

- Wrap the fitted vacuum hose **(27)** into the compartment for the vacuum hose. Pull up both pull straps **(13)** and hook them into the fastening openings.
- Click the L-BOXX onto the holders **(11)**.
- Remove the plastic bag/fleece filter bag as soon as it is full.
- Only ever carry the dust extractor by the carrying handle **(10)**.
- Store the dust extractor on a level surface in a dry room and secure it so that it cannot be used by unauthorised persons.
- Put the castor brake **(18)** down to hold the castors **(17)** in place.
- To make transporting the vacuum cleaner easier and gentle on the back, completely empty the container or dispose of the full plastic bag/fleece filter bag beforehand.
- Unlock the castor brake **(18)** for pushing or pulling the dust extractor.
- Only use the extended guide handle **(39)** to push or pull the dust extractor. The dust extractor must not be pulled up steps by the guide handle. The carrying handle must be used in this instance.
- When carrying the dust extractor up steps, ensure there is nobody directly behind you, in case the dust extractor should unexpectedly fall.

Rectifying Errors

- **If a fault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum cleaner must be switched off immediately. The fault must be repaired before resuming operation.**

Problem	Remedy
Suction turbine will not switch on.	Check the mains cable, mains plug, fuse, socket and fill level sensors (42) . The main switch (2) is set to "automatic start/stop". Set the main switch (2) to the "extraction" symbol or switch on the power tool plugged into the plug socket (4) .
The suction turbine switches off.	During wet extraction, the LED indicators A and M will flash slowly and simultaneously. Empty the container (1) . During dry extraction, the LED indicators A and M will flash quickly and simultaneously: The overload protection on the dust extractor socket is activated. Switch off the power tool.
The dust extractor shuts down.	The dust extractor is overloaded due to the maximum voltage of the dust extractor plug socket being exceeded: The motor protection device is triggered. Send the dust extractor to an authorised Bosch after-sales service centre.
The suction turbine will not switch on again after the container has been emptied.	Switch the dust extractor off and wait 5 s before switching it back on. Clean the fill level sensors (42) and the space between the fill level sensors (42) using a brush.
The suction power is decreasing.	Remove any blockages from the vacuum nozzle, suction tube, vacuum hose (27) or flat-pleated filter (31) . Change the plastic bag (29) /fleece filter bag (37) .

Problem	Remedy
	Make sure the filter cover (40) is engaged correctly.
	Place the top part of the vacuum cleaner (12) on correctly and close the catches (15) .
	Change the flat-pleated filter (31) .
Dust is escaping during extraction	Check that the flat-pleated filter (31) has been fitted correctly. Change the flat-pleated filter (31) .
Automatic switch-off (wet extraction) is not working.	Clean the fill level sensors (42) and the space between the fill level sensors (42) using a brush. Check the fill level regularly.
The automatic filter cleaning function is not working.	Switch to manual mode by pressing the manual filter cleaning button (7) . If the problem persists, contact an authorised Bosch after-sales service centre.
Manual filter cleaning cannot be triggered.	Over-temperature protection of the dust extractor is activated. Pressing the manual filter cleaning button (7) continuously ten times has triggered the over-temperature protection. The over-temperature protection will be automatically suspended after 20 s. Pressing the manual filter cleaning button (7) continuously 30 times has triggered the over-temperature protection. The over-temperature protection will be automatically suspended after 4 min. If the problem persists, contact an authorised Bosch after-sales service centre.
The automatic filter cleaning function is not activated.	Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The vacuum cleaner, its accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of the vacuum cleaner along with household waste.

Français

Consignes de sécurité pour les aspirateurs



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

► **Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience**

ou de connaissances. Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

- ▶ **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.
- ▶ **Observez toutes les consignes de sécurité relatives aux matières à aspirer.**
- ▶ **N'aspirez pas des poussières de hêtre ou de chêne, ni des poussières minérales ou d'amiante.** Ces matières sont considérées comme cancérogènes.

⚠ AVERTISSEMENT **Ne mettez en marche l'aspirateur qu'après vous être suffisamment informé sur son utilisation, sur la nature des matières à aspirer et sur la façon de les éliminer en toute sécurité.** Une initiation approfondie sur son utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de blessure.

⚠ AVERTISSEMENT **L'aspirateur est conçu pour l'aspiration de matières sèches et aussi de liquides, moyennant certaines mesures.** La pénétration de liquides dans l'appareil ou tout contact avec des liquides augmente le risque de choc électrique.

- ▶ **N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

⚠ AVERTISSEMENT **N'utilisez la prise de courant que pour les usages mentionnés dans la présente notice.**

⚠ AVERTISSEMENT **Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve.**

L'aspirateur risque sinon d'être endommagé.

- ▶ **ATTENTION ! Ne rangez l'aspirateur qu'en intérieur.**
- ▶ **ATTENTION ! Nettoyez régulièrement les capteurs de niveau de liquide et vérifiez alors qu'ils ne sont pas endommagés.** Il y a sinon risque de dysfonctionnement.
- ▶ **Si l'utilisation de l'aspirateur dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utilisez un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'aspirateur, de la fiche et du cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'aspirateur si des défauts sont constatés. N'ouvrez pas l'aspirateur vous-même. Confiez-le pour réparation à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Un aspirateur,

un câble et/ou une fiche endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.

- ▶ **Veillez à ne pas écraser ou coincer le câble. Ne tirez pas sur le câble pour l'extraire de la prise électrique ou pour déplacer l'aspirateur.** Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.
- ▶ **Veillez à bien aérer la zone de travail.**
- ▶ **Ne confiez la réparation de l'aspirateur qu'à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur.

⚠ AVERTISSEMENT **L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez l'aspirateur qu'avec le système de filtration complet et bien en place.** Vous mettriez sinon votre santé en danger.

- ▶ **Avant de mettre en marche l'aspirateur, assurez-vous du bon état du tuyau d'aspiration. Laissez alors le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement.** Vous risqueriez sinon d'aspirer de la poussière.
- ▶ **Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur.** Vous risqueriez d'endommager l'aspirateur.
- ▶ **Soyez prudent lors de l'utilisation du cordon d'alimentation et du tuyau d'aspiration.** Vous pourriez sinon mettre en danger d'autres personnes.
- ▶ **Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Branchez l'aspirateur sur une prise électrique correctement reliée à la terre.** La prise électrique et la rallonge doivent posséder un conducteur de mise à la terre.
- ▶ **N'utilisez pas la prise électrique de l'aspirateur lors de l'aspiration de liquides ou dans des environnements humides.** Il y a risque de court-circuit ou de choc électrique si elle venait à entrer en contact avec de l'eau.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et leur signification. Une bonne connaissance des symboles vous permettra d'utiliser l'aspirateur au mieux et en toute sécurité.


Symboles et leur signification



AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.



Aspirateur conforme à la classe de filtration L selon CEI/EN 60335-2-69 conçu pour **l'aspiration à sec** de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d'exposition > 1 mg/m³



AVERTISSEMENT ! L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez l'aspirateur qu'avec le système de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon votre santé en danger.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**


Ne clipsez pas plus d'un coffret L-BOXX. Le poids du coffret L-BOXX et de son contenu ne doit pas dépasser 15 kg.



N'accrochez pas l'aspirateur à un palan, un crochet de grue ou autre pour le transporter. L'aspirateur n'est pas grutable. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.



Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur et ne l'utilisez pas comme marchepied ou tabouret. L'aspirateur risque de basculer et d'être endommagé. Il y a un risque de blessure.



A

A
Indicateur LED Mode nettoyage de filtre automatique

M

M
Indicateur LED Mode nettoyage de filtre manuel

Symboles et leur signification



Touche Nettoyage de filtre automatique



Touche Nettoyage de filtre manuel



Mise en marche/arrêt automatique
Aspiration des poussières produites par les outils électroportatifs pendant leur utilisation
L'aspirateur se met en marche automatiquement et s'arrête de façon différée. La prise électrique de l'aspirateur est en permanence sous tension.



Arrêt
La prise électrique de l'aspirateur est hors tension.




Aspiration
Aspiration des poussières qui se sont déposées et des poussières du système d'aspiration.
La prise électrique de l'aspirateur est en permanence sous tension.



Min/Max
Réglage en continu de la force d'aspiration :

- Puissance d'aspiration maximale pour les applications générant beaucoup de poussière
- Puissance d'aspiration réduite pour les applications générant peu de poussière et pour réguler la force d'aspiration entre l'outil électroportatif raccordé et la surface de la pièce (p. ex. lors de ponçages)



Le protocollage des données est activé sur cet aspirateur.

**max.
2100 W
min.
100 W**

Indication de la puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé (diffère selon les pays)

Description du produit et des prestations

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'aspirateur est conçu pour la collecte, l'aspiration, l'évacuation et la séparation de poussières sèches ininflammables et de liquides ininflammables. L'aspirateur a été testé et reconforme conforme à la classe de filtration L. Il est destiné aux ap-

plications professionnelles exigeantes, sur les chantiers, dans l'industrie et dans les ateliers.

Les aspirateurs conformes à la classe de filtration L selon CEI/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que pour l'aspiration à sec de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d'exposition > 1 mg/m³.

N'utilisez l'aspirateur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions ou après avoir été initié à son utilisation.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'aspirateur dans les pages graphiques.

- (1) Cuve
- (2) Interrupteur principal
- (3) Raccord d'aspiration
- (4) Prise électrique pour outil électroportatif
- (5) Indicateur LED **A** Mode nettoyage de filtre automatique
- (6) Indicateur LED **M** Mode nettoyage de filtre manuel
- (7) Touche Nettoyage de filtre manuel
- (8) Touche Nettoyage de filtre automatique
- (9) Régulateur de puissance d'aspiration
- (10) Poignée de transport
- (11) Fixation pour coffret L-BOXX
- (12) Partie supérieure de l'aspirateur
- (13) Sangle
- (14) Ouverture de fixation
- (15) Patte de fermeture de la partie supérieure de l'aspirateur
- (16) Roue fixe
- (17) Roue pivotante
- (18) Frein de roue pivotante
- (19) Fixe-câble
- (20) Glissières de la poignée-étrier télescopique
- (21) Zone de préhension arrière
- (22) Suceur-brosse combiné
- (23) Adaptateur d'aspiration combiné (pour outil électroportatif)
- (24) Patte de fermeture du couvre-filtre
- (25) Cache du préfiltre
- (26) Touche de déverrouillage du préfiltre
- (27) Flexible d'aspiration
- (28) Coude d'aspiration
- (29) Sac plastique
- (30) Orifice de circulation d'air
- (31) Filtre plissé plat
- (32) Bouton-pression du flexible d'aspiration
- (33) Adaptateur PowerTool (partie avant)
- (34) Adaptateur PowerTool (partie arrière)

(35) Touche de déverrouillage du suceur-brosse combiné

(36) Support de sac-filtre en non-tissé^{a)}

(37) Sac-filtre en non-tissé^{a)}

(38) Bouton-pression de la poignée-étrier^{a)}

(39) Poignée-étrier escamotable^{a)}

(40) Couvre-filtre du filtre plissé plat

(41) Préfiltre

(42) Capteur de niveau de remplissage

(43) Flotteur

(44) Verrouillage du flotteur

(45) Aimant

a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussière	GAS 400 A	
Référence		3 601 JMO 0..
Tension nominale	V	220-240
Puissance absorbée nominale	W	1 200
Fréquence	Hz	50-60
Contenance (brute) de la cuve	l	40
Contenance nette (matières sèches)	l	28
Contenance nette (liquides)	l	20
Dépression maxi ^{A)}		
- Aspirateur	hPa	220
- Turbine	hPa	240
Débit maxi ^{A)}		
- Aspirateur	l/s	31
	m ³ /h	111,6
- Turbine	l/s	80
	m ³ /h	288
Classe de filtration		L
Poids ^{B)}	kg	14,0
Classe de protection		⊕/I
Indice de protection		IPX4

A) mesurée avec tuyau d'aspiration de Ø 28 mm et de 4 m de longueur

B) Poids sans cordon d'alimentation ni fiche mâle

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d'utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Mise en marche/arrêt automatique			
3 601 JMO ...	Tension nominale	Puissance maximale	Puissance minimale
080	220 V	2 100 W	100 W
020/0F0/ OK0/OEO	220-240 V	2 100 W	100 W

Mise en marche/arrêt automatique

3 601 JMO ...	Tension nominale	Puissance maximale	Puissance minimale
OLO	220-240 V	1 660 W	100 W
OHO/ONO	220-240 V	1 000 W	100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé.

Pour les modèles vendus dans d'autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l'aspirateur.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 60335-2-69**.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'aspirateur est de **73 dB(A)**. Incertitude K = **2 dB**. Le niveau sonore peut dépasser les valeurs indiquées pendant l'utilisation de l'outil. **Portez un casque antibruit !**

Valeurs globales de vibration a_h (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 60335-2-69** :

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montage

► **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

Montage des accessoires d'aspiration (voir figure A)

Le flexible d'aspiration (27) est pourvu d'un système de clipage permettant le raccordement des accessoires d'aspiration (adaptateur d'aspiration combiné (23), coude d'aspiration (28), suceur-broche combiné (22)).

Montage du coude d'aspiration

- Emboîtez le coude d'aspiration (28) sur le flexible d'aspiration (27) jusqu'à ce que les deux boutons poussoirs (32) s'enclenchent de manière audible.
- Pour le retirer, appuyez sur les boutons-pressions (32) et tirez.

Montage de l'adaptateur d'aspiration combiné

L'adaptateur d'aspiration combiné (23) est constitué de l'adaptateur PowerTool (partie avant) (33) et de l'adaptateur PowerTool (partie arrière) (34).

L'adaptateur d'aspiration combiné (23) est compatible avec les outils électroportatifs Bosch.

Avec son diamètre intérieur de 38,5 mm et son diamètre extérieur de 45 mm, l'adaptateur PowerTool (partie arrière) (34) est aussi utilisable pour les outils électroportatifs d'autres fabricants.

Emboîtez l'adaptateur PowerTool (partie avant) (33) sur l'adaptateur PowerTool (partie arrière) (34) et raccordez les

deux adaptateurs l'un à l'autre en les tournant dans le sens opposé (voir figure B).

Emboîtez l'adaptateur d'aspiration combiné (23) sur le flexible d'aspiration (27) jusqu'à ce que les deux boutons-pressions (32) de l'adaptateur d'aspiration s'enclenchent de manière audible.

Pour le retrait, appuyez sur les boutons-pressions (32) et séparez l'adaptateur d'aspiration combiné du flexible d'aspiration.

Pour séparer les deux adaptateurs, tournez-les dans le sens opposé et déboîtez-les.

Montage du suceur-brosse combiné

Emboîtez le suceur-brosse combiné (22) sur le flexible d'aspiration (27) jusqu'à ce que les deux boutons poussoirs (32) s'enclenchent de manière audible.

Pour le retirer, appuyez sur les boutons-pressions (32) et tirez.

Réglage du suceur-brosse combiné (voir figure C)

Vous pouvez utiliser le suceur-brosse combiné (22) comme suceur droit ou comme brosse.

Pour utiliser le suceur-brosse combiné (22) comme brosse, appuyez sur la touche de déverrouillage (35) et poussez la brosse vers l'avant.

Pour utiliser le suceur-brosse combiné (22) comme suceur droit, appuyez sur la touche de déverrouillage (35) et tirez la brosse vers l'arrière.

Montage du tuyau d'aspiration (voir figure D)

Emboîtez le tuyau d'aspiration (27) sur le raccord (3) et tournez-le à fond dans le sens horaire.

Remarque : Lors de l'aspiration, le frottement de la poussière contre les parois du tuyau d'aspiration et de l'accessoire génère des charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges électrostatiques plus ou moins gênantes pour l'utilisateur (dépend des conditions environnementales et de la sensibilité corporelle de chacun).

Bosch recommande pour cette raison l'utilisation d'un tuyau d'aspiration antistatique (accessoire) pour l'aspiration de poussières fines et de matières sèches.

Fixation du flexible d'aspiration à l'aspirateur (voir figure E)

Enroulez le flexible d'aspiration (27) raccordé dans le logement de l'aspirateur prévu à cet effet. Tirez les deux sangles (13) vers le haut et accrochez-les au niveau des ouvertures de fixation (14).

Mise en place/retrait d'un sac plastique (aspiration de matières sèches) (voir figure F)

Ouvrez les deux pattes de fermeture (15) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (12).

Pour l'aspiration de matières sèches, insérez un sac plastique (29) dans la cuve (1).

Insérez le sac plastique (29) dans la cuve (1) avec l'ouverture de remplissage orientée vers le haut.

Faites en sorte que le sac plastique (29) épouse bien tout l'intérieur de la cuve (1).

Rabattez le reste du sac plastique (29) au-dessus du bord de la cuve (1). Veillez à ce que la ligne de butée du sac plastique se trouve au niveau du bord de la cuve et à ce que les orifices de circulation d'air (30) se trouvent dans la cuve.

Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur (12) et fermez les pattes de fermeture (15).

► **Assurez-vous que l'aspirateur est hermétiquement fermé.**

Fermez le sac plastique **avant** de le retirer. Tenez le sac à son extrémité supérieure et nouez-le avec un lien.

Mise en place/retrait du sac-filtre en non-tissé (aspiration de matières sèches) (voir figures G–H)

Pour l'aspiration de matières sèches de la classe L, il est possible d'utiliser un sac-filtre en non-tissé (37) (accessoire).

Les matières avec valeur limite d'exposition $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (conformes à la classe de filtration L) peuvent être aspirées directement dans la cuve.

Remarque : Lors de l'utilisation d'un sac-filtre en non-tissé, désactivez le nettoyage de filtre automatique (voir « Nettoyage de filtre automatique/manuel (voir figure M) », Page 24).

AVERTISSEMENT L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez l'aspirateur qu'avec le système de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon votre santé en danger.

Ouvrez les pattes de fermeture (15) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (12).

Pour la mise en place, placez le sac-filtre en non-tissé (37) sur le support de sac-filtre en non-tissé (36) et logez le sac-filtre (37) avec son support (36) dans la cuve (1).

Pour le retrait, fermez l'ouverture du sac-filtre plein en tirant sur la languette. Dégagez le sac-filtre fermé (37) du support de sac-filtre (36) et sortez-le de l'aspirateur.

Remettez en place la partie supérieure (12) de l'aspirateur et fermez les clips de fermeture (15) pour réunir la cuve (1) et la partie supérieure (12).

Clipsage d'un coffret L-BOXX (voir figure I)

Pour ranger et transporter des accessoires de l'aspirateur et/ou un outil électroportatif, vous pouvez clipser un coffret L-BOXX sur la partie supérieure de l'aspirateur.

Fixez le flexible d'aspiration à l'aspirateur (voir figure E).

Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).

► **N'utilisez pas l'aspirateur quand un coffret L-BOXX est clipsé.** En présence d'un coffret L-BOXX, le centre de gravité de l'aspirateur est plus haut que la normale. L'aspira-

teur risque de basculer. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.

► **Ne portez pas l'aspirateur par la poignée du coffret L-BOXX clipsé.** La poignée du coffret L-BOXX n'est pas prévue pour supporter le poids de l'aspirateur. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.

Montage de la poignée-étrier escamotable (accessoire) (voir figures J–K)

Remarque : La poignée-étrier escamotable n'est pas démon-
table. Veillez lors du montage à bien orienter la poignée-étrier.

Avant de procéder au montage, vérifiez l'orientation de la poignée-étrier (39) au moyen des marquages R (droite) et L (gauche).

Insérez la poignée-étrier (39) dans les glissières (20).

Poussez la poignée-étrier (39) vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

Pour modifier la longueur de la poignée-étrier (39), appuyez sur le bouton-pression (38).

Utilisation

► **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

Mise en marche

► **Tenez compte de la tension secteur !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

► **Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans votre pays concernant l'exposition aux poussières nocives à la santé.**

L'aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :

– Poussières avec une valeur limite d'exposition $> 1 \text{ mg/m}^3$
N'utilisez jamais l'aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d'explosion.

Pour disposer de la capacité d'aspiration maximale, déroulez toujours complètement le tuyau d'aspiration (27) de la partie supérieure de l'aspirateur (12).

Réglage de la puissance d'aspiration

Le sélecteur de puissance d'aspiration (9) permet de faire varier en continu la puissance d'aspiration.

Pour les applications générant beaucoup de poussière, réglez le sélecteur (9) sur la puissance d'aspiration maximale.

Pour les applications générant peu de poussière et pour réguler la puissance d'aspiration entre l'outil électroportatif raccordé et la surface de la pièce (p. ex. lors de ponçages), placez le sélecteur (9) sur la position pour puissance d'aspiration réduite.

Prise électrique de l'aspirateur

- **Respectez la puissance de raccordement admissible de la prise électrique de l'aspirateur. Tout dépassement de la puissance de raccordement maximale admissible peut conduire à une surcharge de l'aspirateur. Le disjoncteur de protection du moteur se déclenche.** Envoyez l'aspirateur à un centre de Service Après-Vente **Bosch** agréé.

Après avoir branché le cordon d'alimentation de l'aspirateur dans une prise secteur, la prise électrique pour outils électroportatifs (4) est sous tension dès que l'interrupteur principal est placé dans la position 1. Elle peut être utilisée comme prise électrique externe, p. ex. lors de travaux avec des systèmes d'aspiration. Dans la position 1+, la fonction de mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur est active. L'aspirateur se met alors en marche automatiquement, en même temps que l'outil électroportatif raccordé.

Aspiration de matières sèches

Aspiration de poussières déposées



Pour **mettre en marche** l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1.



Pour **arrêter** l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

Aspiration des poussières produites pendant l'utilisation des outils électroportatifs (voir figure L)

- **Au cas où l'air sortant de l'appareil est directement rejeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux de renouvellement d'air suffisant dans la pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.**

L'aspirateur dispose d'une prise électrique pour outils électroportatifs (4). Vous pouvez raccorder à cette prise un outil électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de raccordement maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé.

Montez l'adaptateur d'aspiration combiné (23) (voir figure B).

Reliez l'adaptateur d'aspiration combiné (23) au raccord d'aspiration de l'outil électroportatif.



Pour **activer la fonction de mise en marche/arrêt automatique** de l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1+.

Pour **mettre en marche l'aspirateur**, allumez l'outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4). L'aspirateur démarre automatiquement.

Pour **arrêter l'aspiration**, éteignez l'outil électroportatif. Afin d'aspirer totalement la poussière encore présente dans le flexible d'aspiration, l'aspirateur continue de fonctionner encore 15 s avant de s'arrêter (fonction arrêt différé).



Pour **arrêter l'aspirateur**, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

Utilisation du système d'aspiration (accessoire)



Raccordez le système d'aspiration au flexible d'aspiration (27).

Pour **aspirer les poussières avec le système d'aspiration**, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1.

Appliquez le système d'aspiration contre le mur et allumez l'outil électroportatif. La dépression générée permet au système d'aspiration d'adhérer de lui-même au support (mur). Éteignez l'outil électroportatif et dégagez avec précaution le système d'aspiration du mur.



Pour **arrêter l'aspirateur**, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

Aspiration de liquides

- **N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

- **N'utilisez pas l'aspirateur comme une pompe à eau.** L'aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d'air et d'eau.

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité (classe de filtration L) n'ont été attestées que pour l'aspiration de matières sèches.

Avant l'aspiration de liquides

Videz la cuve (1) et retirez le sac plastique (29) ou le sac-filtre en non-tissé (37).

Vérifiez si le capteur de niveau de remplissage (42) n'est pas encrassé. Il faut que le capteur soit propre pour que l'aspirateur s'arrête automatiquement lorsque la cuve est pleine (voir « Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures Q-R) », Page 25).

- **Pendant l'aspiration de liquides, le nettoyage de filtre automatique doit être désactivé.**

Actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (8) pour activer le nettoyage de filtre manuel (voir « Nettoyage de filtre manuel », Page 24). Cela désactive le nettoyage de filtre automatique, l'indicateur LED A (5) s'éteint.

Aspiration de liquides

- ⚠ **AVERTISSEMENT** Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve.

L'aspirateur risque sinon d'être endommagé.

Pour **mettre en marche l'aspirateur**, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1.

L'aspirateur est équipé de capteurs de niveau de remplissage (42). Quand la hauteur de remplissage maximale est atteinte, l'aspirateur s'éteint automatiquement et les deux indicateurs LED A (5) et M (6) clignotent simultanément 1 fois par seconde. La protection anti-redémarrage est active et peut être désactivée en éteignant/rallumant 1 fois l'aspirateur.

Remarque : Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage et videz la cuve à temps.

Pour **arrêter l'aspirateur**, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

Saisissez la cuve (1) au niveau de la zone de préhension arrière (21) et basculez-la vers l'avant pour la vider.

Après l'aspiration de liquides

Après chaque aspiration d'un liquide, nettoyez le capteur de niveau de remplissage (42) (voir « Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures Q-R) », Page 25).

Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (31) et laissez-le bien sécher.
- Retirez la partie supérieure de l'aspirateur (12), ouvrez la couvre-filtre (40) et laissez les deux bien sécher.

Nettoyage de filtre automatique/manuel (voir figure M)

Nettoyage de filtre automatique

Remarque : Le nettoyage de filtre automatique est toujours actif à la mise en marche de l'aspirateur (réglage par défaut). L'indicateur LED A (5) est allumé en permanence.

Lorsque le nettoyage de filtre automatique est actif, le filtre plissé plat (31) est nettoyé toutes les 15 s par 2 jets d'air (bruit de pulsation).

Une utilisation régulière du nettoyage de filtre prolonge la durée de vie du filtre.

Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est vraiment nécessaire (p. ex. pour l'aspiration de liquides).

Nettoyage de filtre manuel

Actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (8) pour activer le nettoyage de filtre manuel. Cela désactive le nettoyage de filtre automatique, l'indicateur LED A (5) s'éteint.

Actionnez la touche Nettoyage de filtre manuel (7) pour activer le nettoyage de filtre manuel. Le filtre plat plissé (31) est nettoyé par 2 jets d'air. L'indicateur LED M (6) s'allume en blanc pendant 2 s. Dès que l'indicateur LED M (6) s'éteint, un nouveau cycle de nettoyage peut être déclenché. Appuyez pour cela à nouveau sur la touche Nettoyage de filtre manuel (7).

Remarque : Il convient d'attendre 2 à 3 s entre chaque actionnement de la touche de nettoyage manuel. Un actionnement répété sans pause de la touche Nettoyage de filtre manuel (7) provoque l'activation de la protection contre la surchauffe de l'aspirateur. La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout d'un certain temps (voir « Dépannage », Page 25).

Pour désactiver le nettoyage de filtre manuel, actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (8).

Un filtre plissé encrassé en surface reste entièrement fonctionnel. Il n'est pas nécessaire de nettoyer manuellement le filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela risquerait même de l'endommager.

Entretien et Service après-vente

Maintenance et nettoyage

- ▶ **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.
- ▶ **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**
- ▶ **Portez un masque anti-poussières lors de la maintenance et du nettoyage de l'aspirateur.**

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

Pour les travaux d'entretien à effectuer par l'utilisateur, il convient de veiller à ne pas mettre en danger le personnel d'entretien ou d'autres personnes lors du démontage, du nettoyage et de l'entretien. Avant de procéder au démontage, il est recommandé de nettoyer l'aspirateur afin de prévenir des dangers éventuels. Veillez à une bonne aération de la pièce dans laquelle l'aspirateur va être démonté. Pendant les travaux d'entretien, portez des équipements de protection individuelle. Une fois les travaux d'entretien terminés, prenez soin de nettoyer le poste de travail.

Un contrôle technique, incluant notamment un contrôle de l'état du filtre, de l'étanchéité de l'aspirateur et du fonctionnement correct du dispositif de contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant ou par une personne qualifiée.

Sur les aspirateurs de classe **L** qui se trouvaient dans un environnement sale, il convient de nettoyer l'extérieur ainsi que toutes les pièces accessibles ou bien de les traiter avec des agents d'étanchéité. Lors des travaux d'entretien ou de réparation, mettez au rebut et remplacez toutes les pièces encrassées qui ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante. Ces pièces doivent être mises dans des sacs étanches conformément aux prescriptions en vigueur concernant l'élimination de ce type de déchets.

- Nettoyez de temps en temps le carter de l'aspirateur avec un chiffon humide.

Nettoyage de la cuve

Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d'un détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

Nettoyage/remplacement du filtre plissé plat (voir figures N–O)

- **Saisissez le couvre-filtre par la patte de fermeture lors de son ouverture et veillez à ce que le couvre-filtre ouvert s'enclenche dans la position verticale.** Une chute du couvre-filtre risquerait de causer des blessures.

Le pouvoir aspirant dépend l'état du filtre. Il est donc important de nettoyer le filtre régulièrement.

Remplacez le filtre plissé plat (31) dès qu'il est endommagé.

- Tirez sur la patte de fermeture (24) et basculez le couvre-filtre (40) vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verticale.
- Saisissez le filtre plissé plat (31) au niveau des nervures et sortez-le par le haut.
- Retirez avec un chiffon humide la poussière et les saletés qui tombent sur le bord de la cuve (1) lors du retrait du filtre plissé plat (31).
- Le filtre plissé plat peut être rincé sous l'eau courante.
- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé nettoyé (31) en veillant à son positionnement correct.
- Refermez le couvre-filtre (40) en veillant à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Nettoyage du préfiltre (voir figure P)

- **Le préfiltre ne doit pas être nettoyé avec un liquide.**

- **Ne glissez pas vos doigts entre la poignée-étrier et l'aspirateur pour déverrouiller le cache du préfiltre.**

Vous risqueriez de coincer votre main.

Tirez la poignée-étrier (39) vers le haut jusqu'à ce que le cache de préfiltre soit librement accessible par l'arrière.

Appuyez sur la touche de déverrouillage (26) du cache de préfiltre (25) et délogez le cache.

Retirez le préfiltre (41).

Brossez les lamelles du préfiltre avec une brosse souple.

Placez le préfiltre dans le cache de préfiltre (25).

Insérez le cache de préfiltre (25) dans le logement de préfiltre en veillant à ce qu'il s'enclenche.

Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures Q–R)

Débranchez le câble de l'aspirateur de la prise secteur.

Retirez la partie supérieure de l'aspirateur (12).

Videz la cuve (1).

Secouez le flotteur (43) ou tapotez-le légèrement pour faire tomber la poussière.

Nettoyez le flotteur (43) avec un chiffon doux.

Retirez le flotteur si nécessaire. Pour cela, appuyez sur le verrouillage (44) et sortez le flotteur (43).

Nettoyez l'aimant (45) avec une brosse.

Remettez en place le flotteur (43).

Rangement et transport

- Enroulez le câble d'alimentation secteur autour du fixe-câble (19).
- Logez les accessoires dans les fixations prévues à cet effet.
- Enroulez le flexible d'aspiration (27) raccordé dans le logement de l'aspirateur prévu à cet effet. Tirez les deux sangles (13) vers le haut et accrochez-les au niveau des ouvertures de fixation.
- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).
- Retirez le sac plastique/sac-filtre en non-tissé dès qu'il est plein.
- Ne portez l'aspirateur que par la poignée (10).
- Rangez l'aspirateur dans un local sec avec un sol plan et assurez-vous qu'il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez les roues pivotantes (17) en actionnant le frein (18).
- Pour simplifier le transport et ménager votre dos, videz la cuve complètement ou retirez le sac plastique/sac-filtre en non-tissé s'il est plein.
- Déverrouillez le frein de roue pivotante (18) pour déplacer l'aspirateur.
- Ne déplacez l'aspirateur qu'au moyen de la poignée-étrier (39) déployée à fond. Ne montez pas des marches d'escalier en tirant l'aspirateur par la poignée-étrier. Utilisez pour cela la poignée de transport.
- Lorsque vous portez l'aspirateur dans un escalier, veillez à ce que personne ne se trouve directement derrière vous car il y a risque de blessure au cas où l'aspirateur devait basculer vers l'arrière accidentellement.

Dépannage

- **En présence d'un dysfonctionnement (par ex. déchirement du filtre), arrêtez aussitôt l'aspirateur. Supprimez la cause du dysfonctionnement avant de remettre en marche l'aspirateur.**

Problème	Remède
La turbine d'aspiration ne fonctionne pas.	Contrôlez le cordon d'alimentation et son connecteur, la prise électrique et les capteurs de niveau de remplissage (42). L'interrupteur principal (2) se trouve sur « Mise en marche/arrêt automatique ». Placez l'interrupteur principal (2) sur le symbole « Aspiration » ou allumez l'outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4).
La turbine d'aspiration s'arrête.	Lors de l'aspiration de liquides, les indicateurs LED A et M clignotent lentement et simultanément. Videz la cuve (1).

Problème	Remède
	Lors de l'aspiration de matières sèches, les indicateurs LED A et M clignotent rapidement et simultanément : la protection contre les surcharges de la prise électrique de l'aspirateur est active. Éteignez l'outil électroportatif.
L'aspirateur s'arrête.	Surcharge de l'aspirateur suite au dépassement de la tension maximale au niveau de la prise électrique de l'aspirateur : le disjoncteur de protection moteur a déclenché. Envoyez l'aspirateur à un centre de Service Après-Vente Bosch agréé.
La turbine d'aspiration ne fonctionne plus après le vidage de la cuve.	Arrêtez l'aspirateur, attendez 5 s puis remettez-le en marche après 5 s. Nettoyez les capteurs de niveau de remplissage (42) et l'espace entre les capteurs de niveau de remplissage (42) avec une brosse.
Le pouvoir aspirant diminue.	Débouchez la buse d'aspiration, le tube d'aspiration, le flexible d'aspiration (27) ou le filtre plissé plat (31). Remplacez le sac plastique (29)/sac-filtre en non-tissé (37). Emboîtez correctement le couvre-filtre (40). Il doit s'enclencher. Remettez en place correctement la partie supérieure de l'aspirateur (12) et verrouillez correctement les pattes de fermeture (15). Remplacez le filtre plissé plat (31).
Rejet de poussières lors de l'aspiration	Vérifiez si le filtre plissé plat (31) est bien en place. Remplacez le filtre plissé plat (31).
L'arrêt automatique (aspiration de liquides) ne fonctionne pas.	Nettoyez les capteurs de niveau de remplissage (42) et l'espace entre les capteurs de niveau de remplissage (42) avec une brosse. Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage.
Le nettoyage de filtre automatique ne fonctionne pas.	Sélectionnez le mode manuel en actionnant la touche Nettoyage de filtre manuel (7). Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente agréé Bosch .
Le nettoyage de filtre manuel ne se laisse pas activer.	La protection contre la surchauffe de l'aspirateur est active. La protection contre la surchauffe s'est déclenchée après 10 actionnements successifs de la touche Nettoyage de filtre manuel (7). La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout de 20 s. La protection contre la surchauffe s'est déclenchée après 30 actionnements successifs de la touche Nettoyage de filtre manuel (7). La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout de 4 min. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente agréé Bosch .
Le nettoyage de filtre automatique ne fonctionne pas.	Contactez un centre de service après-vente agréé pour outillage Bosch .

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel. : +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Élimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas l'aspirateur avec les ordures ménagères !

Português

Instruções de segurança para aspiradores



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.

► **Respeite todas as normas de segurança para as substâncias a aspirar.**

► **Não aspire madeira de faia ou de carvalho, pó de pedra ou asbesto.** Estas substâncias são consideradas cancerígenas.

AVISO Use o aspirador apenas se tiver recebido informações suficientes para o uso, para os materiais a aspirar e para a eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

AVISO O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A entrada de líquidos aumenta o risco de choque elétrico.

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o**

aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

AVISO Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

AVISO Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

► **ATENÇÃO!** O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.

► **ATENÇÃO!** Limpe regularmente os sensores do nível de enchimento para líquidos e verifique se estão danificados. Caso contrário a função pode ser prejudicada.

► **Se não for possível evitar o funcionamento do aspirador em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.

► **Antes de qualquer utilização, verifique o aspirador, o cabo e a ficha. Não utilize o aspirador se detetar danos no mesmo. Não abra o aspirador, as reparações devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente peças de substituição originais.** Aspiradores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de choque elétrico.

► **Não passe por cima do cabo, nem o esmague. Não puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem para deslocar o aspirador.** Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

► **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**

► **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.

AVISO O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mandar executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.

► **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó.** Caso contrário, poderá inalar o pó.

► **Não utilize o aspirador como assento.** O aspirador pode ser danificado.

- ▶ **Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.
- ▶ **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- ▶ **Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada corretamente à terra.** A tomada e o cabo de extensão têm de ter um condutor de proteção funcional.
- ▶ **Não utilize a tomada no aspirador ao aspirar líquidos ou num ambiente húmido.** Através do contacto com água existe o perigo de curto-circuito ou de um choque elétrico.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A correta interpretação dos símbolos ajuda-o a utilizar o aspirador melhor e com mais segurança.

Símbolos e seus significados



AVISO! Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



Aspirador da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar a seco** pós prejudiciais para a saúde com valor limite de exposição > 1 mg/m³



AVISO! O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mandar executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Engatar no máximo apenas uma L-Boxx. O peso da L-Boxx com o conteúdo não pode exceder os 15 kg.

Símbolos e seus significados



Não pendure o aspirador, p.ex. para efeitos de transporte, num gancho de grua. O aspirador não pode ser transportado por grua. Existe perigo de ferimentos e danos.



Não utilize o aspirador como assento, escada ou base. O aspirador pode tombar e ser danificado. Existe perigo de ferimentos.



A

A

LED indicador do modo de limpeza automática do filtro

M

M

LED indicador do modo de limpeza manual do filtro



Tecla Limpeza automática do filtro



Tecla Limpeza manual do filtro



Sistema start/stop automático

Aspirar o pó resultante de ferramentas elétricas em funcionamento; o aspirador liga-se automaticamente e desliga-se de forma retardada. A tomada no aspirador encontra-se permanentemente sob tensão.



Desligar

A tomada no aspirador encontra-se sem corrente.



Aspirar

Aspirar o pó depositado e o pó do sistema de aspiração. A tomada no aspirador encontra-se permanentemente sob tensão.



Mín./Máx.

Regulação contínua da potência de aspiração:

- máximo poder de aspiração para aplicação com forte formação de pó
- poder de aspiração reduzido para aplicações com pouca formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar)

Símbolos e seus significados

O registro de dados está ativado neste aspirador.

max.
2100 W
min.
100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada (específico do país)

Descrição do produto e do serviço

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

O aspirador destina-se a recolher, aspirar, transportar e separar pó seco não inflamável e líquidos não inflamáveis. O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de pó L. É adequado para as elevadas exigências na utilização profissional, p. ex. nas artes e ofícios, na indústria e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 só podem ser utilizados para aspirar pós prejudiciais para a saúde com um valor-limite de exposição > 1 mg/m³.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar todas as funções sem limitações e se tiver recebido instruções suficientes sobre as mesmas.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

- (1) Recipiente
- (2) Interruptor principal
- (3) Encaixe da mangueira
- (4) Tomada para a ferramenta elétrica
- (5) LED indicador **A** Modo de limpeza automática do filtro
- (6) LED indicador **M** Modo de limpeza manual do filtro
- (7) Tecla Limpeza manual do filtro
- (8) Tecla Limpeza automática do filtro
- (9) Regulador do poder de aspiração
- (10) Pega de transporte
- (11) Encaixe L-BOXX
- (12) Parte superior do aspirador
- (13) Tira de tração
- (14) Abertura de fixação
- (15) Fecho para a parte superior do aspirador
- (16) Roda
- (17) Rolete de guia

- (18) Travão do rolete de guia
- (19) Suporte do cabo
- (20) Calhas de guia para o estribo guia extraível
- (21) Área de agarre posterior
- (22) Bocal para escova combinado
- (23) Adaptador de aspiração combinado (para ferramenta elétrica)
- (24) Patilha de fecho da cobertura do filtro
- (25) Cobertura do pré-filtro
- (26) Tecla de desbloqueio do pré-filtro
- (27) Mangueira de aspiração
- (28) Bocal curvo
- (29) Saco de plástico
- (30) Abertura de passagem do ar
- (31) Filtro de pregas planas
- (32) Botão de pressão da mangueira de aspiração
- (33) Adaptador PowerTool (peça dianteira)
- (34) Adaptador PowerTool (peça posterior)
- (35) Tecla de desbloqueio do bocal para escova combinado
- (36) Suporte do saco de filtro de velo^{a)}
- (37) Saco de filtro de velo^{a)}
- (38) Botão de pressão do estribo guia^{a)}
- (39) Estribo guia extraível^{a)}
- (40) Cobertura do filtro de pregas planas
- (41) Pré-filtro
- (42) Sensor do nível de enchimento
- (43) Flutuador
- (44) Bloqueio do flutuador
- (45) Ímã

a) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

Dados técnicos

Aspirador universal	GAS 400 A	
Número de produto		3 601 JMO 0..
Tensão nominal	V	220-240
Potência nominal absorvida	W	1200
Frequência	Hz	50-60
Capacidade do depósito (bruto)	l	40
Volume líquido (seco)	l	28
Volume líquido (líquido)	l	20
Vácuo máx. ^{A)}		
- Aspirador	hPa	220
- Turbina	hPa	240
Fluxo máx. ^{A)}		
- Aspirador	l/s	31

Aspirador universal	GAS 400 A	
	m ³ /h	111,6
- Turbina	l/s	80
	m ³ /h	288
Classe de pó		L
Peso ^{B)}	kg	14,0
Classe de proteção		⊕/I
Tipo de proteção		IPX4

A) medido com uma mangueira de aspiração Ø 28 mm e 4 m de comprimento

B) Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Sistema start/stop automático			
3 601 JMO ...	Tensão nominal	Potência máxima	Potência mínima
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/ OK0/OE0	220-240 V	2100 W	100 W
0L0	220-240 V	1660 W	100 W
0H0/0N0	220-240 V	1000 W	100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada. No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 60335-2-69**.

O nível de pressão sonora avaliado como A do aspirador é normalmente **73 dB(A)**. Incerteza $K = 2$ dB. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados.

Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo

EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montagem

- ▶ **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Montar acessórios de aspiração (ver figura A)

A mangueira de aspiração (27) está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração combinado (23), bocal curvo (28), bocal para escova combinado (22)).

Montar o bocal curvo

- Insira o bocal curvo (28) na mangueira de aspiração (27) até os dois botões de pressão (32) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- Para desmontar, prima os botões de pressão (32) para dentro e separe os componentes.

Montar o adaptador de aspiração combinado

O adaptador de aspiração combinado (23) é composto pelo adaptador PowerTool (peça dianteira) (33) e pelo adaptador PowerTool (peça posterior) (34).

O adaptador de aspiração combinado (23) é compatível com ferramentas elétricas Bosch.

O adaptador PowerTool (peça posterior) (34) pode ser utilizado com ferramentas elétricas de outros fabricantes devido ao seu diâmetro interior de 38,5 mm e ao diâmetro exterior de 45 mm.

Insira o adaptador PowerTool (peça dianteira) (33) no adaptador PowerTool (peça posterior) (34) e ligue os dois adaptadores rodando opostamente (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (23) na mangueira de aspiração (27), até que os dois botões de pressão (32) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, pressione os botões de pressão (32) para dentro e retire o adaptador de aspiração combinado da mangueira de aspiração.

Para separar os dois adaptadores, solte a ligação rodando opostamente e separe os adaptadores.

Montar o bocal para escova combinado

Insira o bocal para escova combinado (22) na mangueira de aspiração (27), até que os dois botões de pressão (32) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, prima os botões de pressão (32) para dentro e separe os componentes.

Ajustar o bocal para escova combinado (ver figura C)

Pode utilizar o bocal para escova combinado (22) como bocal para juntas ou escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (35) e empurre a escova para a frente, para utilizar o bocal para escova combinado (22) como escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (35) e puxe a escova para trás, para utilizar o bocal para escova combinado (22) como bocal para juntas.

Montar a mangueira de aspiração (ver figura D)

Insira a mangueira de aspiração (27) na respetiva fixação da mangueira (3) e rode-a para a direita até ao batente.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostática, através da fricção do pó na mangueira e nos acessórios de aspiração, que é perceptível ao utilizador na forma de descarga estática (dependente das influências ambientais e da sensibilidade do corpo).

Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração antiestática (acessórios) para aspirar pó fino e materiais secos.

Fixar a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E)

Enrole a mangueira de aspiração montada (27) no compartimento para a mesma. Puxe as duas alças de retenção (13) e enganche-as nas aberturas de fixação (14).

Colocar/retirar o saco de plástico (aspirar a seco) (ver figura F)

Abra os dois fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para aspirar a seco, coloque um saco de plástico (29) no recipiente (1).

Coloque o saco de plástico (29) com a abertura de enchimento para cima no recipiente (1).

Certifique-se de que o saco de pó (29) fica totalmente encostado às paredes interiores do recipiente (1).

Dobre o restante saco de plástico (29) sobre o rebordo do recipiente (1). Certifique-se de que a linha de encosto do saco de plástico se encontra na borda do recipiente e que as aberturas de passagem de ar (30) permanecem no recipiente.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e feche o aspirador com os fechos (15).

► Certifique-se de que o aspirador está sempre bem fechado.

Feche o saco de plástico, **antes** de o retirar. Mantenha a parte de cima do saco unida e utilize uma fita para atar o saco.

Colocar/retirar o saco de filtro de velo (aspirar a seco) (ver figuras G–H)

Para aspirar substâncias a seco de acordo com a classe de pó L, pode utilizar um saco de filtro de velo (37) (acessório). Desde que sejam aspiradas substâncias sem ou com um valor limite de exposição $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (de acordo com a classe de poeiras L), as mesmas podem ser aspiradas diretamente para o depósito.

Nota: na utilização do saco de filtro de velo desligue a limpeza automática do filtro (ver "Limpeza do filtro automática/manual (ver figura M)", Página 33).

⚠ AVISO

O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.

Abra os fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para colocar, insira o saco de filtro de velo (37) no respetivo suporte (36) e coloque o saco de filtro de velo (37) com o respetivo suporte (36) no recipiente (1).

Para retirar, feche a abertura do saco de filtro de velo cheio puxando pelo fecho. Puxe o saco de filtro de velo

fechado (37) do respetivo suporte (36) e retire-o do aspirador.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e ligue-a fechando os fechos (15) do recipiente (1) com a parte superior do aspirador (12).

Engatar a L-BOXX (ver figura I)

Para o transporte do aspirador e para o acondicionamento em pouco espaço dos acessórios de aspiração e/ou ferramenta elétrica, pode engatar uma L-BOXX na parte superior do aspirador.

Fixe a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E).

Engate a L-BOXX nos encaixes (11).

► **Não aspire com a L-BOXX engatada.** O centro de gravidade do aspirador desloca-se para cima. O aspirador pode tombar. Existe perigo de ferimentos e danos.

► **Não transporte o aspirador na pega de transporte da L-BOXX engatada.** O aspirador é demasiado pesado para a pega de transporte da L-BOXX. Existe perigo de ferimentos e danos.

Montar o estribo guia extraível (acessório) (ver figuras J–K)

Nota: o estribo guia extraível não pode ser desmontado.

Tenha atenção ao alinhamento correto do estribo guia durante a montagem.

Antes da colocação, alinhe o estribo guia (39) com base nas marcações **R** (direita) e **L** (esquerda).

Coloque o estribo guia (39) nas calhas de guia (20).

Pressione para baixo o estribo guia (39) até à linha de encosto, até que o estribo guia engate de forma audível.

Pressione o botão de pressão (38), para alterar o comprimento do estribo guia (39).

Funcionamento

► **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Colocação em funcionamento

► **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do aspirador.

► **Informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.**

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:

– pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição $> 1 \text{ mg/m}^3$

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para garantir um poder de aspiração ideal, tem de desenrolar por completo a mangueira de aspiração (27) da parte superior do suporte (12).

Regular a potência de aspiração

Através do regulador da potência de aspiração (9) pode regular progressivamente a potência de aspiração.

Coloque o regulador da potência de aspiração (9) na potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó.

Coloque o regulador da potência de aspiração (9) na posição de potência de aspiração reduzida, para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar).

Tomada no aspirador

- **Observe a potência de conexão admissível da tomada no aspirador. Exceder a potência de conexão máxima admissível pode causar sobrecarga no aspirador. O fusível de proteção do motor dispara.** Envie o aspirador para um posto de assistência técnica **Bosch** autorizado.

Assim que a ficha de rede do aspirador estiver encaixada na tomada e o interruptor principal estiver na posição **1**, a tomada para ferramentas elétricas (4) fica sob tensão. Esta pode ser utilizada como tomada elétrica externa no aspirador, p. ex. ao trabalhar com sistemas de aspiração. Na posição **1+** o sistema start/stop automático do aspirador está ativado. O aspirador pode ser ligado remotamente através da ferramenta elétrica conectada.

Aspirar a seco

Aspirar pó depositado



Para **ligar o aspirador**, rode o interruptor principal (2) para a posição **1**.

Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (2) para a posição **0**.

Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura L)

- **Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.**

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas (4). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Respeite a potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

Monte o adaptador de aspiração combinado (23) (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (23) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.



Para **ligar o sistema start/stop automático** do aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição **1+**.

Para a **colocação em funcionamento do aspirador** ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (4). O aspirador inicia-se automaticamente.

Desligue a ferramenta elétrica para **terminar a aspiração**. A função de inércia do sistema start/stop automático funciona durante 15 s para aspirar o pó residual da mangueira de aspiração.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (2) para a posição **0**.

Utilização do sistema de aspiração (acessório)



Ligue o sistema de aspiração à mangueira de aspiração (27).

Para **aspirar pós através do sistema de aspiração**, rode o interruptor principal (2) para a posição **1**.

Mantenha o sistema de aspiração na parede e ligue a ferramenta elétrica. O sistema de aspiração adere automaticamente à parede devido ao vácuo gerado.

Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o sistema de aspiração da parede.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (2) para a posição **0**.

Aspirar em molhado

- **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.
- **O aspirador não pode ser operado como bomba de água.** O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de água.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a seco.

Antes de aspirar em molhado

Esvazie o recipiente (1) e retire o saco de plástico (29) ou o saco de filtro de velo (37).

Verifique o sensor do nível de enchimento (42) quanto a sujidade. Apenas um sensor do nível de enchimento limpo permite o desligamento automático do aspirador quando o nível máximo de enchimento do recipiente é alcançado (ver "Limpar o sensor do nível de enchimento (ver figuras Q-R)", Página 34).

- **A limpeza automática do filtro tem de estar desativada durante a aspiração de líquidos.**

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro **(8)**, para ativar a limpeza manual do filtro (ver "Limpeza manual do filtro", Página 33). Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED **A (5)** apaga-se.

Aspirar líquidos

A AVISO

Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

Para **ligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **1**.

O aspirador está equipado com sensores do nível de enchimento **(42)**. Quando a altura máxima de enchimento é alcançada, o aspirador desliga-se automaticamente e os dois indicadores LED **A (5)** e **M (6)** piscam simultaneamente 1 vez por segundo. A proteção contra reaquecimento involuntário está ativada e pode ser desativada ligando/desligando 1 vez o aspirador.

Nota: verifique regularmente o nível de enchimento e esvazie o recipiente atempadamente.

Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **0**.

Agarre o recipiente **(1)** na área de agarre posterior **(21)** e incline-o para a frente para esvaziar o líquido.

Após a aspiração de líquidos

Após cada aspiração de líquidos, limpe o sensor do nível de enchimento **(42)** (ver "Limpar o sensor do nível de enchimento (ver figuras Q-R)", Página 34).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire o filtro de pregas **(31)** e deixe-o secar bem.
- Retire a parte superior do aspirador **(12)**, abra a cobertura do filtro **(40)** e deixe secar ambas muito bem.

Limpeza do filtro automática/manual (ver figura M)

Limpeza automática do filtro

Nota: por norma, está definida a limpeza automática do filtro quando o aspirador é ligado.

O indicador LED **A (5)** acende-se permanentemente.

Na limpeza automática do filtro, o filtro de pregas planas **(31)** é limpo a cada 15 s por 2 sopros de ar (ruído pulsante).

Uma realização regular da limpeza do filtro aumenta a vida útil do filtro.

Para conseguir a melhor durabilidade do filtro, desative a limpeza automática do filtro apenas em casos excecionais, p. ex. ao aspirar líquidos.

Limpeza manual do filtro

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro **(8)**, para ativar a limpeza manual do filtro. Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED **A (5)** apaga-se.

Pressione a tecla Limpeza manual do filtro **(7)**, para efetuar a limpeza manual do filtro. O filtro de pregas planas **(31)** é

limpo por 2 sopros de ar. O indicador LED **M (6)** acende-se a branco durante 2 s. Quando o indicador LED **M (6)** se apaga, o sopro de ar seguinte pode ser ativado. Para o efeito, pressione novamente a tecla Limpeza manual do filtro **(7)**.

Nota: na limpeza manual do filtro, tenha em atenção que cada pressão na tecla deve ser feita com um intervalo de 2–3 s. Pressionando várias vezes a tecla Limpeza manual do filtro **(7)** de forma contínua faz com que a proteção contra sobreaquecimento do aspirador seja ativada. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após algum tempo (ver "Eliminação de falhas", Página 34). Para desligar a limpeza manual do filtro, pressione a tecla Limpeza automática do filtro **(8)**.

Um filtro de pregas com superfície suja está operacional. Uma limpeza manual do filtro de pregas através de batimentos e sopro não é necessária e pode até danificar o filtro.

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- ▶ **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.
- ▶ **Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**
- ▶ **Use uma máscara de proteção durante a manutenção e limpeza do aspirador.**

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

Para a manutenção pelo utilizador, o aspirador deve ser desmontado, limpo e mantido na medida do possível, sem causar perigo ao pessoal de manutenção e a outras pessoas. O aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para evitar eventuais perigos. O recinto onde o aspirador deve ser desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção. Após a manutenção deve ser feita uma limpeza na área de manutenção.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o funcionamento do dispositivo de controlo.

No caso de aspiradores da classe **L**, que estiveram num ambiente poluído, o exterior e todas as peças da máquina devem ser limpas ou tratadas com vedantes. Ao executar trabalhos de manutenção e reparação, todas as peças contaminadas que não podem ser limpas de forma satisfatória devem ser eliminadas. Essas peças devem ser eliminadas em sacos impermeáveis de acordo com os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.

- De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.

Limpar o recipiente

Lave o recipiente **(1)** de tempos a tempos com um detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o secar.

Limpar/trocar o filtro de pregas planas (ver figuras N–O)

- ▶ **Agarre a cobertura do filtro pela patilha de fecho ao abrir e certifique-se de que a cobertura do filtro engata na posição vertical.** Existe perigo de ferimentos se a cobertura do filtro cair.

O poder de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas planas **(31)** danificado.

- Puxe a patilha de fecho **(24)** e vire a cobertura do filtro **(40)** para cima até que engate na posição vertical.
- Segure o filtro de pregas **(31)** pelas barras e retire-o puxando para cima.
- Remova o pó e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro de pregas planas **(31)** da borda do recipiente **(1)** com um pano húmido.
- O filtro de pregas planas pode ser lavado sob água corrente.
- Coloque o filtro de pregas planas **(31)** limpo ou um novo e certifique-se do assento correto e seguro.
- Feche a cobertura do filtro **(40)**, de modo a que engate de forma audível.

Limpar o pré-filtro (ver figura P)

- ▶ **O pré-filtro não pode ser molhado quando é limpo.**
- ▶ **Não agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador para desbloquear a cobertura do pré-filtro.** Caso contrário, poderá entalar a sua mão.

Puxe o estribo guia **(39)** para cima, até que a cobertura do pré-filtro fique acessível a partir de trás.

Pressione a tecla de desbloqueio **(26)** da cobertura do pré-filtro **(25)** e retire-a do compartimento do pré-filtro.

Retire o pré-filtro **(41)**.

Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.

Coloque o pré-filtro na respetiva cobertura **(25)**.

Coloque a cobertura do pré-filtro **(25)** no compartimento do pré-filtro e feche-o.

Limpar o sensor do nível de enchimento (ver figuras Q–R)

Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.

Retire a parte superior do aspirador **(12)**.

Esvazie o depósito **(1)**.

Mova o flutuador **(43)** ou bata-o ligeiramente para remover a sujidade.

Limpe o flutuador **(43)** com um pano macio.

Se necessário, também pode retirar o flutuador. Para o efeito, pressione o bloqueio **(44)** e retire o flutuador **(43)**.

Limpe o íman **(45)** com uma escova.

Coloque novamente o flutuador **(43)**.

Arrecadação e transporte

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo **(19)**.
- Encaixe o acessório nos suportes previstos para o efeito.
- Enrole a mangueira de aspiração montada **(27)** no compartimento para a mesma. Puxe as duas alças de retenção **(13)** para cima e enganche-as nas aberturas de fixação.
- Engate a L-BOXX nos encaixes **(11)**.
- Retire o saco de plástico/saco de filtro de velo assim que estiver cheio.
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte **(10)**.
- Deposite o aspirador num recinto seco com base plana e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os roletes de guia **(17)** pressione o travão dos roletes de guia **(18)** para baixo.
- Para o transporte mais simples e cómodo do aspirador, esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco de plástico/saco de filtro de velo cheio.
- Desbloqueie o travão dos roletes de guia **(18)** para empurrar ou puxar o aspirador.
- Utilize apenas o estribo guia extraído **(39)** para empurrar ou puxar o aspirador. O aspirador não pode ser puxado pelo estribo guia em degraus de escadas. Neste caso, deve ser usada a pega de transporte.
- Certifique-se de que não existe ninguém diretamente atrás de si ao transportar o aspirador nas escadas, caso o aspirador seja deixado cair inadvertidamente.

Eliminação de falhas

- ▶ **Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.**

Problema	Solução
A turbina de aspiração não arranca.	Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, a proteção, a tomada e os sensores do nível de enchimento (42) . O interruptor principal (2) encontra-se em "Sistema start/stop automático". Colocar o interruptor principal (2) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (4) .

Problema	Solução
A turbina de aspiração desliga-se.	Na aspiração de líquidos os indicadores LED A e M piscam lentamente e em simultâneo. Esvaziar o recipiente (1) . Na aspiração a seco os indicadores LED A e M piscam rapidamente e em simultâneo: a proteção contra sobrecarga da tomada no aspirador está ativada. Desligar a ferramenta elétrica.
O aspirador desliga-se.	Sobrecarga do aspirador quando a tensão máxima da tomada no aspirador é excedida: o fusível de proteção do motor dispara. Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A turbina de aspiração não arranca depois de se esvaziar o recipiente.	Desligar o aspirador e esperar 5 s, após os 5 s voltar a ligar. Limpar os sensores do nível de enchimento (42) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (42) com uma escova.
O poder de aspiração enfraquece.	Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, do tubo de aspiração, da mangueira de aspiração (27) ou do filtro de pregas (31) . Trocar o saco de plástico (29) /saco de filtro de velo (37) . Engatar corretamente a cobertura do filtro (40) . Colocar corretamente a parte superior do aspirador (12) e fechar os fechos (15) . Substituir o filtro de pregas (31) .
Saída de pó ao aspirar	Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (31) . Substituir o filtro de pregas (31) .
O dispositivo de desligamento automático (aspirar líquidos) não arranca.	Limpar os sensores do nível de enchimento (42) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (42) com uma escova. Verificar regularmente o nível de enchimento.
A limpeza automática do filtro não funciona.	Mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (7) . Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
Não é possível ativar a limpeza manual do filtro.	A proteção contra sobreaquecimento do aspirador está ativada. A pressão 10 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 20 s. A pressão 30 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 4 min. Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A limpeza automática do filtro não é ativada.	Entre em contacto com um posto de assistência técnica Bosch autorizado.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontra outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminação

Aspirador, acessórios e embalagens devem ser reciclados de forma ambientalmente correta.



Não deite o aspirador para o lixo doméstico!

Español

Indicaciones de seguridad para aspiradores



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

► **Observe todas las normas de seguridad relativas a los materiales que se van a aspirar.**

► **No aspire madera de haya o roble, polvo de piedra o asbesto.** Estas sustancias son cancerígenas.

⚠ ADVERTENCIA Utilice el aspirador solamente si ha recibido suficiente información para el uso del aspirador, sobre las sustancias que deben ser absorbidas y para su eliminación segura. Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

⚠ ADVERTENCIA El aspirador es adecuado para aspirar sustancias secas y con medidas adecuadas también para aspirar líquidos. La penetración de líquidos aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente la caja de enchufe para los fines especificados en las instrucciones de servicio.

⚠ ADVERTENCIA Apague inmediatamente el aspirador, tan pronto como se escape la espuma o el agua y vacíe el recipiente. En caso contrario podría dañarse el aspirador.

► **¡ATENCIÓN!** El aspirador solo debe guardarse en espacios interiores.

► **¡ATENCIÓN!** Limpie los sensores de nivel de líquido periódicamente y verifique si están dañados. De lo contrario, la función puede verse afectada.

► **Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un entorno húmedo, es necesario conectarlo a través de un interruptor de protección FI.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

► **Verifique el aspirador, los cables y los conectores antes de cada uso. No use el aspirador si detecta daños. No abra el aspirador usted mismo y sólo déjelo reparar por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Los aspiradores, cables, o enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.

► **No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable para sacar el enchufe de la caja de enchufe o para mover el aspirador.** Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.

► **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

► **Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.**

► **Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

⚠ ADVERTENCIA El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la

extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No opere el aspirador sin el sistema de filtro completo y correctamente colocado. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

► **Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto estado de la manguera de aspiración. Al hacerlo, deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para que el polvo no se escape involuntariamente.** En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

- ▶ **No utilice el aspirador como asiento.** Podría dañar el aspirador.
- ▶ **Utilice el cable de la red y la manguera de aspiración con cuidado.** Podría poner en peligro a otras personas.
- ▶ **No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.** Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.
- ▶ **Conecte el aspirador a una red de corriente debidamente conectada a tierra.** La caja de enchufe y el cable de prolongación deben tener un conductor protector apto funcionalmente.
- ▶ **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**
- ▶ **No utilice la caja de enchufe del aspirador cuando aspire en húmedo o en un ambiente húmedo.** El contacto con el agua puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aspirador.

Simbología y su significado



¡ADVERTENCIA! Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.



Aspirador para clase de polvo L según IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar en seco** polvos nocivos para la salud con un valor límite de exposición de $> 1 \text{ mg/m}^3$



¡ADVERTENCIA! El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No utilice el aspirador sin tener el sistema de filtro completa y correctamente colocado.

De lo contrario, podría afectar a su salud.



Simbología y su significado



max. 1 L -Boxx
max. 15 kg

Sólo hacer un clic en una caja L-Boxx.


El peso de la caja L-Boxx con el contenido no debe sobrepasar los 15 kg.



No cuelgue el aspirador de polvo, p. ej. para transportarlo, en un gancho de grúa. El aspirador de polvo no es apto para una grúa. Existe el riesgo de lesiones y daños.



No utilice el aspirador de polvo como asiento, escalera o peldaño. El aspirador podría volcar y dañarse. Existe peligro de lesión.



A

A

Indicador LED de modo de limpieza automática del filtro

M

M

Indicador LED de modo de limpieza manual del filtro



Tecla de limpieza automática del filtro



Tecla de limpieza manual del filtro



Sistema automático de arranque y parada

Aspiración del polvo generado por las herramientas eléctricas en funcionamiento; el aspirador se conecta automáticamente y se desconecta con un retardo de tiempo.

La caja de enchufe del aspirador está permanentemente bajo tensión.



Desconexión

La caja de enchufe del aspirador está sin corriente.



Aspiración

Aspiración del polvo depositado y del polvo del sistema de aspiración.

La caja de enchufe del aspirador está permanentemente bajo tensión.

Min

Min./Máx.

Regulación continua de la fuerza de aspiración:

- máxima potencia de aspiración para aplicaciones con alta generación de polvo

Simbología y su significado

- reducida potencia de aspiración para aplicaciones con baja generación de polvo y para regular la fuerza de aspiración entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza de trabajo (p. ej. al lijar)



En este aspirador está activado el registro de datos.

max.
2100 W
min.
100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada (específica del país)

Descripción del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

Utilización reglamentaria

El aspirador está determinado para captar, aspirar, impulsar y separar polvos secos no inflamables y líquidos no inflamables. El aspirador ha sido ensayado en cuanto a sus propiedades técnicas para la aspiración de polvo, y corresponde a la categoría de polvo L. El aspirador es apropiado para el gran número de aplicaciones en el uso industrial, p. ej. en la artesanía, la industria y en los talleres.

Aspiradores de polvo clase L según IEC/EN 60335-2-69 sólo se pueden utilizar para la absorción y aspiración de polvos nocivos con un valor límite de exposición de $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

Componentes representados

La numeración de los componentes está referida a la representación del aspirador en las páginas ilustradas.

- (1) Depósito
- (2) Interruptor principal
- (3) Soporte de manguera
- (4) Caja de enchufe para herramienta eléctrica
- (5) Indicador LED **A** de modo de limpieza automática del filtro
- (6) Indicador LED **M** de modo de limpieza manual del filtro
- (7) Tecla de limpieza manual del filtro
- (8) Tecla de limpieza automática del filtro
- (9) Regulador de potencia de aspiración
- (10) Asa de transporte
- (11) Alojamiento de la caja L-BOXX
- (12) Parte superior del aspirador

- (13) Cinta de tracción
- (14) Abertura de fijación
- (15) Cierre para la parte superior del aspirador
- (16) Rueda
- (17) Rodillo guía
- (18) Freno de rodillo guía
- (19) Soporte de cable
- (20) Rieles de guía para el estribo de guía extensible
- (21) Zona trasera del asidero
- (22) Boquilla de cepillo combinada
- (23) Adaptador de aspiración combinada (para herramienta eléctrica)
- (24) Brida de cierre de la cubierta del filtro
- (25) Cubierta del prefiltro
- (26) Tecla de desenclavamiento del prefiltro
- (27) Manguera de aspiración
- (28) Boquilla encorvada
- (29) Bolsa de plástico
- (30) Abertura de paso de aire
- (31) Filtro plisado plano
- (32) Botón de tubo flexible de aspiración
- (33) Adaptador de PowerTool (parte delantera)
- (34) Adaptador de PowerTool (parte trasera)
- (35) Tecla de desenclavamiento de boquilla de cepillo combinada
- (36) Soporte de bolsa de filtro de vellón^{a)}
- (37) Bolsa de filtro de vellón^{a)}
- (38) Botón de estribo de guía^{a)}
- (39) Estribo de guía extensible^{a)}
- (40) Cubierta del filtro plisado plano
- (41) Prefiltro
- (42) Sensor de nivel de llenado
- (43) Flotador
- (44) Bloqueo de flotador
- (45) Imán

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco	GAS 400 A	
Número de artículo		3 601 JMO 0..
Tensión nominal	V	220–240
Potencia absorbida nominal	W	1200
Frecuencia	Hz	50–60
Volumen del depósito (bruto)	l	40
Volumen neto (seco)	l	28

Aspirador en húmedo/seco		GAS 400 A	
Volumen neto (líquido)	l	20	
Depresión máx. ^{A)}			
– Aspirador	hPa	220	
– Turbina	hPa	240	
Caudal máx. ^{A)}			
– Aspirador	l/s	31	
	m ³ /h	111,6	
– Turbina	l/s	80	
	m ³ /h	288	
Clase de polvo		L	
Peso ^{B)}	kg	14,0	
Clase de protección		⊕/I	
Grado de protección		IPX4	

A) medido con una manguera de aspiración de 28 mm de Ø y 4 m de longitud

B) Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

Arranque/parada automáticos			
3 601 JMO ...	Tensión nominal	Potencia máxima	Potencia mínima
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/0K0/OE0	220-240 V	2100 W	100 W
0L0	220-240 V	1660 W	100 W
0H0/0N0	220-240 V	1000 W	100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.

En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.

Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según **EN 60335-2-69**.

El nivel de presión acústica valorado con A del aspirador asciende típicamente a menos de **73 dB(A)**.

Inseguridad K = **2 dB**. El nivel de ruidos durante el trabajo puede sobrepasar los valores indicados. **¡Utilice protección para los oídos!**

Valores totales de vibración a_h (suma vectorial de tres direcciones) e inseguridad K determinada según **EN 60335-2-69**:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaje

- **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar**

el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

Montaje de accesorios de aspiración (ver figura A)

La manguera de aspiración (**27**) está equipada con un sistema de clip para poder conectar los accesorios de aspiración (adaptador de aspiración combinado (**23**), boquilla curvada (**28**), boquilla de cepillo combinada (**22**)).

Montaje de la boquilla encorvada

- Inserte la boquilla encorvada (**28**) sobre la manguera de aspiración (**27**), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (**32**) de la manguera de aspiración.
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (**32**) hacia el interior y separe los componentes.

Montaje del adaptador de aspiración combinado

El adaptador de aspiración combinado (**23**) está integrado por el adaptador de PowerTool (parte delantera) (**33**) y el adaptador de PowerTool (parte trasera) (**34**).

El adaptador de aspiración combinado (**23**) es compatible con las herramientas eléctricas Bosch.

El adaptador de PowerTool (parte trasera) (**34**) puede utilizarse para herramientas eléctricas de otros fabricantes gracias a su diámetro interior de 38,5 mm y exterior de 45 mm. Coloque el adaptador de PowerTool (parte delantera) (**33**) en el adaptador de PowerTool (parte trasera) (**34**) y una los dos adaptadores girándolos en direcciones opuestas (ver figura **B**).

Inserte el adaptador de aspiración combinado (**23**) sobre la manguera de aspiración (**27**), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (**32**) de la manguera de aspiración.

Para el desmontaje, oprima los botones de presión (**32**) hacia el interior y retire el adaptador de aspiración combinado de la manguera de aspiración.

Para separar ambos adaptadores, afloje la conexión girando en direcciones opuestas y separe los adaptadores.

Montaje de la boquilla de cepillo combinada

Inserte la boquilla de cepillo combinada (**22**) sobre la manguera de aspiración (**27**), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (**32**) de la manguera de aspiración.

Para el desmontaje, oprima los botones de presión (**32**) hacia el interior y separe los componentes.

Ajuste de la boquilla de cepillo combinada (ver figura C)

Puede utilizar la boquilla del cepillo combinado (**22**) como boquilla para hendiduras o como cepillo.

Presione la tecla de desenclavamiento (**35**) y desplace el cepillo hacia delante para utilizar la boquilla del cepillo combinado (**22**) como cepillo.

Presione la tecla de desenclavamiento (**35**) y tire del cepillo hacia delante para utilizar la boquilla del cepillo combinado (**22**) como boquilla para hendiduras.

Montaje de la manguera de aspiración (ver figura D)

Coloque la manguera de aspiración (27) en la boquilla de conexión (3) y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Indicación: Durante la aspiración se genera una carga electrostática por la fricción del polvo en la manguera y en los accesorios de aspiración, la cual la puede sentir el usuario en forma de una descarga estática (en función de las influencias del medio ambiente y la sensibilidad física).

En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspiración antiestática (accesorio) al aspirar polvo fino y materiales secos.

Fijación de la manguera de aspiración al aspirador (ver figura E)

Enrolle la manguera de aspiración montada (27) en el compartimento para la manguera de aspiración. Tire las dos cintas de tracción (13) hacia arriba y engánchelas en las aberturas de fijación (14).

Colocar/quitar la bolsa de plástico (aspiración en seco) (ver figura F)

Abra los dos cierres (15) y retire la parte superior del aspirador (12).

Para la aspiración en seco, coloque una bolsa de plástico (29) en el depósito (1).

Coloque el saco de plástico (29) con la abertura de llenado hacia arriba en el depósito (1).

Asegúrese, que el saco de plástico (29) quede completamente apoyado en las paredes interiores del depósito (1).

Doble el resto del saco de plástico (29) sobre el borde del depósito (1). Asegúrese de que la línea de tope de la bolsa de plástico quede en el borde del depósito y de que las aberturas de paso del aire (30) permanezcan en el depósito.

Vuelva a colocar la parte superior del aspirador (12) y cierre el aspirador con los cierres (15).

► **Preste atención a que el aspirador esté siempre bien cerrado.**

Cierre la bolsa de plástico, antes de sacarla. Sujete la bolsa por la parte superior y anúdela con una cinta.

Colocar/quitar la bolsa de filtro de vellón (aspiración en seco) (ver figuras G-H)

Para la aspiración en seco de materiales correspondientes a la clase de polvo L puede utilizar una bolsa de filtro de vellón (37) (accesorio).

Si se aspiran sustancias sin o con un valor límite de exposición $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (correspondiente a la clase de polvo L), puede ser aspirado directamente en el depósito.

Indicación: Desconecte la limpieza automática del filtro al utilizar la bolsa de filtro de vellón (ver "Limpieza automática/manual del filtro (ver figura M)", Página 42).

⚠ ADVERTENCIA El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la

extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No opere el aspirador sin el sistema de filtro completo y correctamente colocado. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

Abra los cierres (15) y retire la parte superior del aspirador (12).

Para la aplicación, coloque la bolsa de filtro de vellón (37) en el soporte correspondiente (36) e introduzca la bolsa de filtro de vellón (37) con el soporte correspondiente (36) en el depósito (1).

Para la extracción, cierre la abertura de la bolsa de filtro de vellón llena tirando del cierre. Saque la bolsa de filtro de vellón cerrada (37) del soporte de la bolsa de filtro de vellón (36) y retírela del aspirador.

Vuelva a colocar la parte superior del aspirador (12) y cerrando los cierres (15) una el depósito (1) con la parte superior del aspirador (12).

Prender la caja L-BOXX (ver figura I)

Para el transporte del aspirador y para el ahorro de espacio de almacenamiento de accesorios del aspirador y/o herramientas eléctricas, puede prender una caja L-BOXX sobre la parte superior del aspirador.

Fije la manguera de aspiración en el aspirador (ver figura E). Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (11).

► **No lleve a cabo una aspiración con la caja L-BOXX encajada.** El centro de gravedad del aspirador se desplaza hacia arriba. El aspirador puede volcarse. Existe el riesgo de lesiones y daños.

► **No transporte el aspirador por el asa de transporte de la caja L-BOXX encajada.** El aspirador es demasiado pesado para el asa de transporte de la caja L-BOXX. Existe el riesgo de lesiones y daños.

Montaje del estribo de guía extensible (accesorio) (ver figuras J-K)

Indicación: El estribo de guía extensible no se puede desmontar. Asegúrese de que el estribo de guía esté correctamente alineado en el montaje.

Alinee el estribo de guía (39) utilizando las marcas R (derecha) y L (izquierda) antes de colocarlo.

Coloque el estribo de guía (39) en los rieles de guía (20).

Presione el estribo de guía (39) hacia abajo hasta la línea de tope hasta que el estribo de guía encastre de forma audible.

Presione el botón (38), para modificar la longitud del estribo de guía (39).

Operación

► **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

Puesta en marcha

- **¡Observe la tensión de red!** La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aspirador.
- **Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en su país relativas a la manipulación de materiales en polvo nocivos para la salud.**

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materiales siguientes:

- Polvos con un valor límite de exposición > 1 mg/m³

En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

A fin de garantizar una potencia óptima de aspiración, la manguera de aspiración (27) debe desenrollarse siempre completamente del soporte de la manguera de aspiración (12).

Regulación de la potencia de aspiración

Mediante el regulador de potencia de aspiración (9) puede ajustar sin escalones la potencia de aspiración.

Ajuste el regulador de potencia de aspiración (9) a la máxima potencia de aspiración para aplicaciones con gran generación de polvo.

Ajuste el regulador de potencia de aspiración (9) en la posición de potencia de aspiración reducida para aplicaciones con baja generación de polvo y para regular la fuerza de aspiración entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza de trabajo (p. ej., al lijar).

Caja de enchufe en el aspirador

- **Observe la potencia de conexión admisible de la caja de enchufe del aspirador. En caso de sobrepasar la potencia de conexión máxima admisible, puede producirse una sobrecarga del aspirador. El fusible de protección del motor se activa.** Envíe el aspirador a un centro de servicio autorizado de **Bosch**.

Tan pronto como el enchufe del aspirador esté conectado a la caja de enchufe y el interruptor principal esté en la posición 1, la caja de enchufe para herramientas eléctricas (4) está bajo tensión. Puede utilizarse como toma de corriente externa en el aspirador, p. ej., cuando se trabaja con sistemas de aspiración. En la posición 1+, está activado el sistema automático de arranque/parada del aspirador. A través de la herramienta eléctrica conectada, el aspirador puede conectarse por control remoto.

Aspiración en seco

Aspiración de polvos depositados



Para **conectar el aspirador**, gire el interruptor principal (2) a la posición 1.



Para **desconectar el aspirador**, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

Aspiración de los polvos generados por herramientas eléctricas en funcionamiento (ver figura L)

- **La tasa de renovación de aire en el cuarto deberá ser suficiente, si el aire de salida es expulsado en el cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.**

En el aspirador se ha integrado una caja de enchufe para herramientas eléctricas (4). En esta caja de enchufe puede conectar una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica conectada.

Montaje del adaptador de aspiración combinado (23) (ver figura B).

Inserte el adaptador de aspiración combinado (23) en el rator de aspiración de la herramienta eléctrica.



Para **conectar el sistema automático de arranque/parada** del aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 1+.

Para la **puesta en servicio del aspirador**, encienda la herramienta eléctrica conectada a la caja de enchufe (4). El aspirador arranca automáticamente.

Desconecte la herramienta eléctrica, para que **la aspiración finalice**.

El funcionamiento posterior del sistema automático de arranque/parada sigue funcionando hasta 15 s, para aspirar los polvos remanentes en la manguera de aspiración.



Para **desconectar el aspirador**, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

Utilización del sistema de aspiración (accesorio)



Conecte el sistema de aspiración a la manguera de aspiración (27).

Para **aspirar el polvo mediante el sistema de aspiración**, gire el interruptor principal (2) a la posición 1.

Sujete el sistema de aspiración contra la pared y conecte la herramienta eléctrica. El sistema de aspiración se adhiere automáticamente debido a la depresión resultante.

Desconecte la herramienta eléctrica y retire con cuidado el sistema de aspiración de la pared.



Para **desconectar el aspirador**, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

Aspiración en húmedo

- **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

- **El aspirador no debe usarse como una bomba de agua.** El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y agua.

Indicación: Los requisitos para el grado de transmitancia (clase de polvo L) sólo se probaron para la aspiración en seco.

Antes de la aspiración en húmedo

Vacíe el depósito (1) y retire la bolsa de plástico (29) o la bolsa de filtro de vellón (37).

Compruebe si el sensor de nivel de llenado (42) está sucio. Sólo un sensor de nivel de llenado limpio permite que el aspirador se desconecte automáticamente al alcanzar el nivel de llenado lleno del depósito (ver "Limpieza del sensor de nivel de llenado (ver figuras Q-R)", Página 43).

► La limpieza automática del filtro debe estar desactivada durante la aspiración en húmedo.

Presione la tecla de limpieza automática del filtro (8), para activar la limpieza manual del filtro (ver "Limpieza manual del filtro", Página 42). La limpieza automática del filtro se desactiva y el indicador LED A (5) se apaga.

Aspiración de líquidos

⚠ ADVERTENCIA - Apague inmediatamente el aspirador, tan pronto como se escape la espuma o el agua y vacíe el recipiente.

En caso contrario podría dañarse el aspirador. Para conectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 1.

El aspirador está equipado con sensores de nivel de llenado (42). Una vez alcanzado el nivel máximo de llenado, el aspirador se desconecta automáticamente y los dos indicadores LED A (5) y M (6) parpadean simultáneamente 1 vez por segundo. La protección contra re arranque está activada y puede desactivarse conectando y desconectando el aspirador 1 vez.

Indicación: Compruebe periódicamente el nivel de llenado y vacíe el depósito a su debido tiempo.

Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

Sujete el depósito (1) por la zona del asidero trasera (21) y gírelo hacia delante para vaciar el líquido.

Tras la aspiración en húmedo

Limpie el sensor de nivel de llenado después de cada aspiración en húmedo (42) (ver "Limpieza del sensor de nivel de llenado (ver figuras Q-R)", Página 43).

Tras la aspiración en húmedo para la prevención de crecimiento de moho:

- Saque el filtro plisado plano (31) y déjelo secar bien.
- Retire la parte superior del aspirador (12), abra la cubierta del filtro (40) y deje secar bien ambos componentes.

Limpieza automática/manual del filtro (ver figura M)

Limpieza automática del filtro

Indicación: La limpieza automática del filtro está ajustada de modo estándar al conectar el aspirador.

El indicador LED A (5) se ilumina permanentemente.

Durante la limpieza automática del filtro, el filtro plisado plano (31) se limpia cada 15 s mediante 2 impulsos de aire (ruido pulsante).

El uso regular de la limpieza del filtro aumenta la vida útil del filtro.

Para lograr una vida útil ideal del filtro, desactive la función de limpieza automática del filtro sólo en casos excepcionales, p. ej., al aspirar en húmedo.

Limpieza manual del filtro

Presione la tecla de limpieza automática del filtro (8), para activar la limpieza manual del filtro. La limpieza automática del filtro se desactiva y el indicador LED A (5) se apaga.

Presione la tecla de limpieza automática del filtro (7), para realizar la limpieza manual del filtro. El filtro plisado plano (31) se limpia mediante 2 impulsos. El indicador LED M (6) se ilumina en blanco durante 2 s. Cuando el indicador LED M (6) se apaga, se puede activar el siguiente impulso de aire. Para ello, presione de nuevo la tecla de limpieza manual del filtro (7).

Indicación: En caso de limpieza manual del filtro, asegúrese de que el intervalo temporal entre cada pulsación de la tecla sea de 2–3 s. La repetida pulsación continuada de la tecla de limpieza manual del filtro (7) conduce a la activación de la protección contra sobrecalentamiento del aspirador. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de un tiempo (ver "Remedio de perturbaciones", Página 43).

Para desactivar la limpieza manual del filtro, presione la tecla de limpieza automática del filtro (8).

Un filtro plisado plano con superficie sucia es apto funcionalmente. Una limpieza manual del filtro plisado plano golpeándolo o soplándolo no es necesario e incluso puede dañar el filtro.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.
- Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.
- Lleve una máscara protectora contra polvo en el mantenimiento y la limpieza del aspirador.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por **Bosch** o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas **Bosch**, para evitar riesgos de seguridad.

Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el personal de mantenimiento o demás personas. Antes de su desmontaje deberá limpiarse el aspirador para prevenir posibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspi-

rador deberá estar bien ventilado. Utilice un equipo de protección personal durante los trabajos de mantenimiento. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento deberá limpiarse el área en la que fueron realizados estos trabajos. Al menos una vez al año deberá someterse por el fabricante, o personal adiestrado al respecto, a un control de las propiedades técnicas para la aspiración de polvo como, p. ej., deterioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y función del dispositivo de control.

En el caso de aspiradores de la clase **L**, que se encontraban en entornos sucios, debería limpiarse el exterior así como todas las piezas de la máquina o tratarse con productos selladores. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación deberán desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas piezas deberán guardarse en bolsas herméticas y desecharse según corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.

- Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.

Limpiar el depósito

Limpie el depósito **(1)** de vez en cuando con producto de limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que se seque.

Limpieza/cambio del filtro plisado plano (ver figuras N–O)

- **Al abrir la tapa del filtro, sujétela por la lengüeta de cierre y asegúrese de que la tapa del filtro abierta quede encastrada en posición vertical.** Al caer la tapa del filtro existe peligro de lesión.

La potencia de aspiración depende del estado del filtro. Por ese motivo, limpie el filtro periódicamente.

Cambie inmediatamente un filtro plisado plano dañado **(31)**.

- Tire de la lengüeta de cierre **(24)** y gire la cubierta del filtro **(40)** hacia arriba, hasta que encastre en posición vertical.
- Tome el filtro plisado plano **(31)** por los perfiles y sáquelo hacia arriba.
- Elimine el polvo y la suciedad, que se genera al retirar el filtro plisado plano **(31)**, con un paño húmedo desde el borde del depósito **(1)**.
- El filtro plisado plano puede enjuagarse con agua corriente.
- Coloque un filtro plisado plano **(31)** nuevo o limpio y preste atención a un asiento seguro y correcto.
- Cierre la cubierta del filtro **(40)**, de modo que encastre de forma audible.

Limpieza del prefiltro (ver figura P)

- **El prefiltro no debe limpiarse en húmedo.**
- **No introduzca la mano desde arriba entre el estribo de guía y el aspirador para desbloquear la cubierta del prefiltro.** De lo contrario, podría aprisionarse su mano.

Tire del estribo de guía **(39)** hacia arriba hasta que la cubierta del prefiltro quede libremente accesible desde detrás.

Presione la tecla de desenclavamiento **(26)** de la cubierta del prefiltro **(25)** y retírela del compartimento del prefiltro. Retire el prefiltro **(41)**.

Cepille las láminas del prefiltro con un cepillo blando.

Coloque el prefiltro en la cubierta del prefiltro **(25)**.

Coloque la cubierta del prefiltro **(25)** en el compartimento del prefiltro y repliéguela.

Limpieza del sensor de nivel de llenado (ver figuras Q–R)

Saque el enchufe de red del aspirador de la caja de enchufe. Retire la parte superior del aspirador **(12)**.

Vacíe el depósito **(1)**.

Mueva el flotador **(43)** o golpéelo ligeramente para eliminar la suciedad.

Limpie el flotador **(43)** con un paño suave.

Si es necesario, también puede retirar el flotador. Para ello, presione el enclavamiento **(44)** y extraiga el flotador **(43)**.

Limpie el imán **(45)** con un cepillo.

Vuelva a colocar el flotador **(43)**.

Almacenaje y transporte

- Enrolle el cable de red en el soporte de cables **(19)**.
- Coloque los accesorios en los soportes previstos para ello.
- Enrolle la manguera de aspiración montada **(27)** en el compartimento para la manguera de aspiración. Tire las dos cintas de tracción **(13)** hacia arriba y engánchelas en las aberturas de fijación.
- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento **(11)**.
- Retire la bolsa de plástico/bolsa de filtro de vellón en cuanto esté llena.
- Transporte el aspirador sólo por el asa de transporte **(10)**.
- Guarde el aspirador en un espacio seco con suelo plano y asegúrelo contra un uso no autorizado.
- Para fijar los rodillos guías **(17)** pise hacia abajo el freno de rodillo guía **(18)**.
- Para facilitar el transporte del aspirador y no dañar la espalda, vacíe completamente el depósito o deseche la bolsa de plástico/la bolsa del filtro de vellón llena.
- Desbloquee el freno de rodillo guía **(18)** para empujar o tirar el aspirador.
- Utilice únicamente el estribo de guía desplegado **(39)** para empujar o tirar el aspirador. El aspirador no debe arrastrarse por escalones con el estribo de guía. Para ello debe utilizarse el asa de transporte.
- Cuando suba la aspiradora por las escalas, asegúrese de que no hayan otras personas justo detrás de usted por si el aspirador se deja caer inesperadamente.

Remedio de perturbaciones

- **Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del filtro), debe desconectarse inmediatamente el aspirador. Antes de realizar una nueva puesta en servicio debe eliminarse la perturbación.**

Problema	Remedio
La turbina de aspiración no arranca.	Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sensores de nivel de llenado (42) . El interruptor principal (2) está en "Sistema automático de arranque/parada". Poner el interruptor principal (2) en el símbolo "Aspirar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (4) .
La turbina de aspiración se desconecta.	Durante la aspiración en húmedo, los indicadores LED A y M parpadean lenta y simultáneamente. Vaciar el depósito (1) . Durante la aspiración en seco, los indicadores LED A y M parpadean rápida y simultáneamente: la protección contra sobrecarga de la caja de enchufe del aspirador está activada. Desconexión de la herramienta eléctrica.
El aspirador se desconecta.	Sobrecarga del aspirador por sobrepasar la tensión máxima de la caja de enchufe del aspirador: Se dispara el fusible de protección del motor. Envíe el aspirador a un centro de servicio autorizado de Bosch .
La turbina de aspiración no arranca de nuevo tras vaciar el depósito.	Desconectar el aspirador y esperar 5 s; tras 5 s volver a conectarlo. Limpiar los sensores de nivel de llenado (42) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (42) con un cepillo.
La fuerza de aspiración disminuye.	Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiración, del tubo de aspiración, de la manguera de aspiración (27) o del filtro plisado plano (31) . Cambiar la bolsa de plástico (29) /bolsa de filtro de vellón (37) . Encastrar correctamente la cubierta del filtro (40) . Colocar correctamente la parte superior del aspirador (12) y cerrar los cierres (15) . Cambiar el filtro plisado plano (31) .
Escape de polvo al aspirar	Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (31) . Cambiar el filtro plisado plano (31) .
El sistema automático de desconexión (aspiración en húmedo) no responde.	Limpiar los sensores de nivel de llenado (42) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (42) con un cepillo. Controlar permanentemente el nivel de llenado.
La limpieza automática del filtro no funciona.	Cambie al modo manual presionando la tecla de limpieza manual del filtro (7) . Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Bosch .
No se deja activar la limpieza manual del filtro.	La protección contra sobrecalentamiento del aspirador está activada. La pulsación de la tecla de limpieza manual del filtro (7) 10 veces continuamente ha activado la protección contra sobrecalentamiento. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de 20 s. La pulsación de la tecla de limpieza manual del filtro (7) 30 veces continuamente ha activado la protección contra sobrecalentamiento. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de 4 min. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Bosch .
No se activa la limpieza automática del filtro.	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Bosch .

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su produc-

to, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: **www.bosch-pt.com**

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-

mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

México

Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca – Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62
Tel.: 800 6271286
www.boschherramientas.com.mx

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminación

El aspirador, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje el aspirador a la basura doméstica!



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português do Brasil

Indicações de segurança para aspiradores



Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das advertências e das instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e conhecimentos insuficientes.** Caso contrário, existe

o perigo de utilização errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças, para se assegurar que elas não brincam com o aspirador.**

► **Respeite todos os regulamentos de segurança para as substâncias a aspirar.**

► **Não aspire madeira de faia ou de carvalho, pó de pedra ou amianto.** Essas substâncias são cancerígenas.

⚠ **AVISO** Use o aspirador apenas se você recebeu informações suficientes para o uso, para os materiais a aspirar e para a eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

⚠ **AVISO** O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A penetração de líquidos aumenta o risco de um choque elétrico.

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

⚠ **AVISO** Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

⚠ **AVISO** Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

► **ATENÇÃO! O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.**

► **ATENÇÃO! Limpe regularmente os sensores do nível de enchimento para líquidos e verifique se estão danificados.** Caso contrário a função pode ser prejudicada.

► **Se não for possível evitar que o aspirador seja operado em áreas úmidas, deve-se utilizar um dispositivo de corrente diferencial (DR).** A utilização de um dispositivo de corrente diferencial (DR) reduz o risco de um choque elétrico.

► **Antes de cada utilização é necessário controlar o aspirador, o cabo e o plugue.** Não utilize o aspirador se forem verificados danos. Não abra pessoalmente o aspirador. Somente permita que seja reparado por pessoal qualificado e que sejam utilizadas apenas peças sobressalentes originais. Aspiradores, cabos e plugues danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Não atropelar nem esmagar o cabo. Não puxe pelo cabo para retirar o plugue da tomada nem para**

deslocar o aspirador. Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

- ▶ **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.
- ▶ **Providencie uma boa ventilação no local de trabalho.**
- ▶ **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma fica garantido que as características de segurança do aspirador não são alteradas.

AVISO

O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande

executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.

- ▶ **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó.** Caso contrário pode inspirar pó.
- ▶ **Não utilize o aspirador como assento.** O aspirador pode ser danificado.
- ▶ **Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.
- ▶ **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- ▶ **Ligue o aspirador a uma rede de corrente elétrica corretamente ligada à terra.** A tomada e o cabo de extensão devem ter um condutor de proteção que funcione.
- ▶ **Não utilize a tomada no aspirador ao aspirar líquidos ou num ambiente úmido.** Devido ao contato com água existe o perigo de curto-circuito ou de choque elétrico.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos ajuda você a usar melhor e de forma mais segura o aspirador.

Símbolos e seus respetivos significados



AVISO! Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das indicações de segurança e das instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.



Aspirador da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar a seco** pós

Símbolos e seus respetivos significados

prejudiciais para a saúde com valor limite de exposição > 1 mg/m³



AVISO! O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Encaixar no máximo apenas uma L-BOXX.

O peso da L-BOXX não pode exceder os 15 kg juntamente com o conteúdo.




Não pendure o aspirador com um gancho de guindaste, p. ex. ao transportar.

O aspirador não pode ser transportado com gancho. Há perigo de lesões e de danos.



Não utilize o aspirador como assento nem subir nele.

O aspirador pode tombar e ser danificado. Há risco de lesões.



A

A

LED indicador do modo de limpeza automática do filtro

M

M

LED indicador do modo de limpeza manual do filtro



Tecla Limpeza automática do filtro



Tecla Limpeza manual do filtro



Sistema automático Partida/Parada

Aspirar o pó que se forma das ferramentas elétricas em funcionamento;

Símbolos e seus respectivos significados

o aspirador se liga automaticamente e se desliga de novo com atraso.

A tomada no aspirador se encontra permanentemente sob tensão.

**Desligar**

A tomada no aspirador se encontra sem corrente.

**Aspirar**


Aspirar o pó depositado e o pó do sistema de aspiração.

A tomada no aspirador se encontra permanentemente sob tensão.

**Mín./máx.**

Regulação progressiva da potência de aspiração:

- potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó
- potência de aspiração reduzida para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar)



O registro de dados nesta ferramenta elétrica está ativado.

max.
2100 W
min.
100 W

Indicação da potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada (específica do país)

Descrição e especificações do produto

Respeitar as ilustrações na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

O aspirador se destina a coletar, aspirar, transportar e separar pó seco não inflamável e líquidos não inflamáveis. O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de pó L. É adequado para as elevadas exigências da utilização profissional, p. ex. nas artes e ofícios, na indústria e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pós prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição > 1 mg/m³.

Use o aspirador apenas se souber avaliar e usar todas as funções sem limitações e se tiver recebido instruções suficientes sobre as mesmas.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador nas páginas de esquemas.

- (1) Depósito
- (2) Interruptor principal
- (3) Suporte da mangueira
- (4) Tomada para a ferramenta elétrica
- (5) LED indicador **A** Modo de limpeza automática do filtro
- (6) LED indicador **M** Modo de limpeza manual do filtro
- (7) Tecla Limpeza manual do filtro
- (8) Tecla Limpeza automática do filtro
- (9) Regulador da potência de aspiração
- (10) Punho de transporte
- (11) Encaixe da L-BOXX
- (12) Parte superior do aspirador
- (13) Tira de tração
- (14) Abertura de fixação
- (15) Fecho para o lado superior do aspirador
- (16) Roda
- (17) Sistema de rodízio
- (18) Travas do sistema de rodízio
- (19) Suporte do cabo
- (20) Calhas de guia para o estribo guia extraível
- (21) Área de agarre posterior
- (22) Bocal para escova combinado
- (23) Adaptador de aspiração combinado (para ferramenta elétrica)
- (24) Patilha de fecho para a cobertura do filtro
- (25) Cobertura do pré-filtro
- (26) Tecla de desbloqueio do pré-filtro
- (27) Mangueira de aspiração
- (28) Bocal curvo
- (29) Saco de plástico
- (30) Abertura de passagem do ar
- (31) Filtro de pregas planas
- (32) Botão de pressão da mangueira de aspiração
- (33) Adaptador PowerTool (peça dianteira)
- (34) Adaptador PowerTool (peça posterior)
- (35) Tecla de desbloqueio do bocal para escova combinado
- (36) Suporte do saco de filtro de velo^{a)}
- (37) Saco de filtro de velo^{a)}
- (38) Botão de pressão do estribo guia^{a)}
- (39) Estribo guia extraível^{a)}
- (40) Cobertura do filtro de pregas planas
- (41) Pré-filtro

(42) Sensor de nível de enchimento

(43) Flutuador

(44) Bloqueio do flutuador

(45) Ímã

- a) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento. Todos os acessórios se encontram em nosso catálogo de acessórios.**

Dados técnicos

Aspira a úmido/a seco	GAS 400 A	
Número de produto		3 601 JMO 0..
Tensão nominal	V	220–240
Potência nominal absorvida	W	1200
Frequência	Hz	50–60
Capacidade do depósito (bruta)	l	40
Volume líquido (seco)	l	28
Volume líquido (líquido)	l	20
Vácuo máx. ^{A)}		
– Aspirador	hPa	220
– Turbina	hPa	240
Fluxo máx. ^{A)}		
– Aspirador	l/s	31
	m ³ /h	111,6
– Turbina	l/s	80
	m ³ /h	288
Classe de pó		L
Peso ^{B)}	kg	14,0
Classe de proteção		⊕/I
Tipo de proteção		IPX4

A) medido com uma mangueira de aspiração Ø 28 mm e 4 m de comprimento

B) Peso sem cabo de alimentação e sem ficha de rede

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.

Sistema automático Partida/Parada			
3 601 JMO ...	Tensão nominal	Potência máxima	Potência mínima
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/ OK0/OE0	220–240 V	2100 W	100 W
0L0	220–240 V	1660 W	100 W
0H0/0N0	220–240 V	1000 W	100 W

Indicação da potência admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada.

No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Observe as indicações na tomada do aspirador.

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 60335-2-69**.

Tipicamente o nível de pressão sonora ponderado em "A" da ferramenta elétrica é **73 dB(A)**. Incerteza K = **2 dB**. O nível de ruído durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados. **Utilizar proteção auditiva!**

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K determinada segundo **EN 60335-2-69**:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = $1,5 \text{ m/s}^2$.

Montagem

- **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

Montar acessórios de aspiração (ver figura A)

A mangueira de aspiração (27) está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração combinado (23), bocal curvo (28), bocal para escova combinado (22)).

Montar o bocal curvo

- Insira o bocal curvo (28) na mangueira de aspiração (27), até os dois botões de pressão (32) da mangueira de aspiração engatarem perceptivelmente.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão (32) para dentro e separar os componentes.

Montar o adaptador de aspiração combinado

O adaptador de aspiração combinado (23) é composto pelo adaptador PowerTool (peça dianteira) (33) e pelo adaptador PowerTool (peça posterior) (34).

O adaptador de aspiração combinado (23) é compatível com ferramentas elétricas Bosch.

O adaptador PowerTool (peça posterior) (34) pode ser utilizado com ferramentas elétricas de outros fabricantes devido ao seu diâmetro interior de 38,5 mm e ao diâmetro exterior de 45 mm.

Insira o adaptador PowerTool (peça dianteira) (33) no adaptador PowerTool (peça posterior) (34) e ligue os dois adaptadores rodando opostamente (ver figura B).

Insira o a adaptador de aspiração combinado (23) na mangueira de aspiração (27), até que os dois botões de pressão (32) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, pressione os botões de pressão (32) para dentro e retire o adaptador de aspiração combinado da mangueira de aspiração.

Para separar os dois adaptadores, solte a ligação rodando opostamente e separe os adaptadores.

Montar o bocal para escova combinado

Insira o bocal para escova combinado (22) na mangueira de aspiração (27), até que os dois botões de pressão (32) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão (32) para dentro e separar os componentes.

Ajustar o bocal para escova combinado (ver figura C)

Pode utilizar o bocal para escova combinado (22) como bocal para juntas ou escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (35) e puxe a escova para a frente, para utilizar o bocal para escova combinado (22) como escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (35) e puxe a escova para trás, para utilizar o bocal para escova combinado (22) como bocal para juntas.

Montar a mangueira de aspiração (ver figura D)

Insira a mangueira de aspiração (27) na respetiva conexão (3) e rode-a para a direita até ao batente.

Nota: Ao aspirar, ocorre, devido ao atrito na mangueira de aspiração e nos acessórios de aspiração, uma carga eletrostática, que o utilizador pode sentir em forma de descarga estática (dependendo das influências ambientais e das condições físicas).

Em geral a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração eletrostática (acessório) para aspirar pós finos e materiais secos.

Fixar a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E)

Enrole a mangueira de aspiração montada (27) no compartimento para a mesma. Puxe as duas fitas de tração (13) para cima e enganche-as nas aberturas de fixação (14).

Colocar/retirar o saco de plástico (aspirar a seco) (ver figura F)

Abra os dois fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para aspirar a seco coloque o saco de plástico (29) no recipiente (1).

Coloque o saco de plástico (29) com a abertura de enchimento para cima no depósito (1).

Certifique-se de que o saco de plástico (29) fique totalmente encostado nas paredes interiores do depósito (1).

Dobre o restante saco de plástico (29) sobre a borda do depósito (1). Certifique-se de que a linha de encosto do saco de plástico se encontra na borda do recipiente e que as aberturas de passagem de ar (30) permanecem no recipiente.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e feche o aspirador com os fechos (15).

► **Certifique-se de que o aspirador está sempre bem fechado.**

Feche o saco de plástico, **antes** de o retirar. Mantenha o saco fechado em cima e utilize uma fita para o atar.

Colocar/retirar o saco de filtro de velo (aspirar a seco) (ver figuras G-H)

Para aspirar substâncias a seco de acordo com a classe de pó L, pode utilizar um saco de filtro de velo (37) (acessório). Se forem aspiradas substâncias sem ou com um valor-limite de exposição $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (de acordo com a classe de pó L), é possível aspirar diretamente para o recipiente.

Nota: na utilização do saco de filtro de velo desligue a limpeza automática do filtro (ver "Limpeza do filtro automática/manual (ver figura M)", Página 51).

AVISO

O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mand

executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.

Abra os fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para colocar, insira o saco de filtro de velo (37) no respectivo suporte (36) e coloque o saco de filtro de velo (37) com o respectivo suporte (36) no recipiente (1).

Para retirar, feche a abertura do saco de filtro de velo cheio puxando pelo fecho. Puxe o saco de filtro de velo (37) fechado do respectivo suporte (36) e retire-o do aspirador. Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e, fechando os fechos (15), ligue o recipiente (1) à parte superior do aspirador (12).

Encaixar a L-BOXX (ver figura I)

Para transportar o aspirador e para acondicionar os acessórios do aspirador e/ou a ferramenta elétrica em pouco espaço, pode encaixar uma L-BOXX na parte superior do aspirador.

Fixe a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E).

Engate a L-BOXX no encaixe (11).

► **Não aspire com a L-BOXX encaixada.** O centro de gravidade do aspirador se desloca para cima. O aspirador pode tombar. Há perigo de lesões e de danos.

► **Não segure no aspirador pela pega de transporte da L-BOXX encaixada.** O aspirador é demasiado pesado para a pega de transporte da L-BOXX. Há perigo de lesões e de danos.

Montar o estribo guia extraível (acessório) (ver figuras J-K)

Nota: o estribo guia extraível não pode ser desmontado. Tenha atenção ao alinhamento correto do estribo guia durante a montagem.

Antes da colocação, alinhe o estribo guia (39) com base nas marcações R (direita) e L (esquerda).

Coloque o estribo guia (39) nas calhas de guia (20).

Pressione para baixo o estribo guia (39) até à linha de encosto, até que o estribo guia engate de forma audível.

Pressione o botão de pressão **(38)**, para alterar o comprimento do estribo guia **(39)**.

Funcionamento

- ▶ **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

Colocação em funcionamento

- ▶ **Observe a tensão da rede!** A tensão da rede de alimentação deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do aspirador.
- ▶ **Saiba mais sobre os regulamentos/leis aplicáveis sobre o manuseio de pó perigoso em seu país.**

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:

- pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição > 1 mg/m³

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para assegurar uma potência de aspiração ideal, é necessário que a mangueira de aspiração **(27)** seja sempre completamente desenrolada da parte superior do aspirador **(12)**.

Regular a potência de aspiração

Através do regulador da potência de aspiração **(9)** pode regular progressivamente a potência de aspiração.

Coloque o regulador da potência de aspiração **(9)** na potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó.

Coloque o regulador da potência de aspiração **(9)** na posição de potência de aspiração reduzida, para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar).

Tomada no aspirador

- ▶ **Observe a potência de conexão admissível da tomada no aspirador. Exceder a potência de conexão máxima admissível pode causar sobrecarga no aspirador. O fusível de proteção do motor dispara.** Envie o aspirador para um posto de assistência técnica **Bosch** autorizado.

Assim que a ficha de rede do aspirador estiver encaixada na tomada e o interruptor principal estiver na posição **1**, a tomada para ferramentas elétricas **(4)** fica sob tensão. Esta pode ser utilizada como tomada elétrica externa no aspirador, p. ex. ao trabalhar com sistemas de aspiração. Na posição **1+** o sistema automático Partida/Parada do aspirador está ativado. O aspirador pode ser ligado remotamente através da ferramenta elétrica conectada.

Aspirar a seco

Aspirar pó depositado



Para **ligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **1**.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **0**.

Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura L)

- ▶ **Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto quando o ar evacuado retorna ao recinto. Observe as respectivas diretrizes nacionais.**

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas **(4)**. Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Observe a máxima potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada.

Monte o adaptador de aspiração combinado **(23)** (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado **(23)** no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.



Para **ligar o sistema automático Partida/Parada** do aspirador, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **1+**.

Para a **colocação em funcionamento do aspirador** ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada **(4)**. O aspirador liga automaticamente.

Desligue a ferramenta elétrica para **encerrar a aspiração**. A função do funcionamento por inércia do sistema automático Partida/Parada continua até 15 segundos, para aspirar o resto dos pós da mangueira de aspiração.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **0**.

Utilização do sistema de aspiração (acessório)



Ligue o sistema de aspiração à mangueira de aspiração **(27)**.

Para **aspirar pós através do sistema de aspiração**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **1**.

Mantenha o sistema de aspiração na parede e ligue a ferramenta elétrica. O sistema de aspiração adere automaticamente à parede devido ao vácuo gerado.

Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o sistema de aspiração da parede.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **0**.

Aspirar líquidos

- ▶ **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, vapores e líquidos podem inflamar e explodir.
- ▶ **O aspirador não deve ser utilizado como bomba de água.** O aspirador é destinado para aspirar uma mistura de ar e água.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a seco.

Antes de aspirar líquidos

Esvazie o recipiente **(1)** e retire o saco de plástico **(29)** ou o saco de filtro de velo **(37)**.

Verifique o sensor de nível de enchimento **(42)** quanto a sujeira. Apenas um sensor de nível de enchimento limpo permite o desligamento automático do aspirador quando o nível máximo de enchimento do recipiente é alcançado (ver "Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras Q-R)", Página 52).

- ▶ **A limpeza automática do filtro tem de estar desativada durante a aspiração de líquidos.**

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro **(8)**, para ativar a limpeza manual do filtro (ver "Limpeza manual do filtro", Página 51). Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED **A (5)** se apaga.

Aspirar líquidos

⚠ AVISO

Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma

ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

Para **ligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **1**.

O aspirador está equipado com sensores de nível de enchimento **(42)**. Quando a altura máxima de enchimento é alcançada, o aspirador se desliga automaticamente e os dois indicadores LED **A (5)** e **M (6)** piscam simultaneamente 1 vez por segundo. A proteção contra reaquecimento involuntário está ativada e pode ser desativada ligando/desligando 1 vez o aspirador.

Nota: verifique regularmente o nível de enchimento e esvazie o recipiente atempadamente.

Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal **(2)** para a posição **0**.

Agarre o recipiente **(1)** na área de agarre posterior **(21)** e incline-o para a frente para esvaziar o líquido.

Após a aspiração de líquidos

Após cada aspiração de líquidos, limpe o sensor de nível de enchimento **(42)** (ver "Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras Q-R)", Página 52).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire o filtro de pregas planas **(31)** e deixe-o secar bem.

- Retire a parte superior do aspirador **(12)**, abra a cobertura do filtro **(40)** e deixe as duas secarem bem.

Limpeza do filtro automática/manual (ver figura M)

Limpeza automática do filtro

Nota: por norma, está definida a limpeza automática do filtro quando o aspirador é ligado.

O indicador LED **A (5)** acende permanentemente.

Na limpeza automática do filtro, o filtro de pregas planas **(31)** é limpo a cada 15 s por 2 sopros de ar (ruído pulsante).

A vida útil do filtro aumenta quando a limpeza do filtro é usada regularmente.

Para alcançar a vida útil ideal do filtro, desative a limpeza automática do filtro apenas em casos excepcionais, p. ex. ao aspirar líquidos.

Limpeza manual do filtro

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro **(8)**, para ativar a limpeza manual do filtro. Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED **A (5)** se apaga.

Pressione a tecla Limpeza manual do filtro **(7)**, para efetuar a limpeza manual do filtro. O filtro de pregas planas **(31)** é limpo por 2 sopros de ar. O indicador LED **M (6)** acende a branco durante 2 s. Quando o indicador LED **M (6)** se apaga, o sopro de ar seguinte pode ser ativado. Para o efeito, pressione novamente a tecla Limpeza manual do filtro **(7)**.

Nota: na limpeza manual do filtro, tenha em atenção que cada pressão na tecla deve ser feita com um intervalo de 2-3 s. Pressionando várias vezes a tecla Limpeza manual do filtro **(7)** de forma contínua faz com que a proteção contra sobreaquecimento do aspirador seja ativada. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após algum tempo (ver "Eliminar falhas", Página 53).

Para desligar a limpeza manual do filtro, pressione a tecla Limpeza automática do filtro **(8)**.

Um filtro de pregas planas superficialmente sujo é totalmente funcional. Não é necessária uma limpeza manual do filtro de pregas planas batendo ou soprando e isso pode até danificar o filtro.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

- ▶ **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.
- ▶ **Mantenha o aspirador e as aberturas de ventilação limpas para trabalhar bem e de forma segura.**
- ▶ **Para a manutenção e limpeza do aspirador deve ser usada uma máscara de proteção contra pó.**

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela **Bosch** ou por uma assistência técnica

autorizada para todas as ferramentas elétricas **Bosch** para evitar riscos de segurança.

Para a manutenção pelo usuário, o aspirador deve ser desmontado, limpo e mantido na medida do possível, sem causar perigo ao pessoal de manutenção e a outras pessoas. O aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para evitar eventuais perigos. O local onde o aspirador é desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção. Após a manutenção deve ser feita uma limpeza na área de manutenção.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controle técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o funcionamento do dispositivo de controle.

No caso de aspiradores da classe **L**, que estiveram num ambiente poluído, o exterior e todas as peças da máquina devem ser limpas ou tratadas com vedantes. Ao executar trabalhos de manutenção e reparação, todas as peças contaminadas que não podem ser limpas de forma satisfatória devem ser eliminadas. Essas peças devem ser eliminadas em sacos impermeáveis de acordo com os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.

- Limpe a caixa do aspirador de tempos a tempos com um pano úmido.

Limpar depósito

Limpar o depósito **(1)** de tempos em tempos com um produto de limpeza de tipo comercial, não abrasivo, e permita que possa secar.

Limpar/trocar o filtro de pregas planas (ver figuras N-O)

► **Agarre a cobertura do filtro ao abrir a patilha de fecho e assegure que a cobertura do filtro aberta engata na posição vertical.** Existe perigo de ferimentos em caso de queda da cobertura do filtro.

A potência de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas planas **(31)** danificado.

- Puxe a patilha de fecho **(24)** e vire a cobertura do filtro **(40)** para cima até que engate na posição vertical.
- Agarre o filtro de pregas planas **(31)** pelas abas e retire o mesmo puxando para cima.
- Remova o pó e sujeira resultante da remoção do filtro de pregas planas **(31)** da borda do recipiente **(1)** com um pano úmido.
- O filtro de pregas planas pode ser lavado sob água corrente.
- Coloque um filtro de pregas planas **(31)** novo ou o limpo e verifique seu assento correto e seguro.
- Feche a cobertura do filtro **(40)**, de modo a que engate de forma audível.

Limpar o pré-filtro (ver figura P)

► **O pré-filtro não pode ser limpo a úmido.**

► **Não agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador para desbloquear a cobertura do pré-filtro.** Caso contrário, poderá entalar sua mão.

Puxe o estribo guia **(39)** para cima, até que a cobertura do pré-filtro fique acessível a partir de trás.

Pressione a tecla de desbloqueio **(26)** da cobertura do pré-filtro **(25)** e retire a mesma do compartimento do pré-filtro. Retire o pré-filtro **(41)**.

Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.

Coloque o pré-filtro na respectiva cobertura **(25)**.

Coloque a cobertura do pré-filtro **(25)** no compartimento do pré-filtro e feche o mesmo.

Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras Q-R)

Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.

Retire a parte superior do aspirador **(12)**.

Esvazie o depósito **(1)**.

Mova o flutuador **(43)** ou bata o mesmo levemente para remover a sujeira.

Limpe o flutuador **(43)** com um pano macio.

Se necessário, também pode retirar o flutuador. Para o efeito, pressione o bloqueio **(44)** e retire o flutuador **(43)**.

Limpe o ímã **(45)** com uma escova.

Coloque novamente o flutuador **(43)**.

Armazenamento e transporte

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte do cabo **(19)**.
- Encaixe o acessório nos suportes previstos para o efeito.
- Enrole a mangueira de aspiração montada **(27)** no compartimento para a mesma. Puxe as duas fitas de tração **(13)** para cima e enganche as mesmas nas aberturas de fixação.
- Engate a L-BOXX no encaixe **(11)**.
- Retire o saco de plástico/saco de filtro de velo assim que estiver cheio.
- O aspirador só deve ser transportado pelo punho de transporte **(10)**.
- Deposite o aspirador em um recinto seco com base plana e proteja-o contra uso não autorizado.
- Para fixar os rolos de guia **(17)** é necessário pressionar as travas do sistema de rodízio **(18)** com o pé.
- Para o transporte mais simples e cômodo do aspirador, esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco de plástico/saco de filtro de velo cheio.
- Desbloqueie as travas do sistema de rodízio **(18)** para empurrar ou puxar o aspirador.
- Utilize somente o estribo guia extraído **(39)** para empurrar ou puxar o aspirador. O aspirador não pode ser puxado pelo estribo guia em patamares. Neste caso, deve ser usada a pega de transporte.
- Assegure que não existe ninguém diretamente atrás de você ao transportar o aspirador nas escadas, caso o aspirador seja deixado cair inadvertidamente.

Eliminar falhas

► Se ocorrer uma avaria (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A avaria

tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Problema	Solução
A turbina de aspiração não liga.	<p>Verificar o cabo de corrente elétrica, ficha de rede, fusível, tomada e sensores de nível de enchimento (42).</p> <p>O interruptor principal (2) se encontra em "Sistema automático de Partida/Parada". Colocar o interruptor principal (2) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (4).</p>
A turbina de aspiração desliga.	<p>Na aspiração de líquidos os indicadores LED A e M piscam lentamente e em simultâneo.</p> <p>Esvaziar o depósito (1).</p> <p>Na aspiração a seco os indicadores LED A e M piscam rapidamente e em simultâneo: a proteção contra sobrecarga da tomada no aspirador está ativada.</p> <p>Desligar a ferramenta elétrica.</p>
O aspirador se desliga.	<p>Sobrecarga do aspirador quando a tensão máxima da tomada no aspirador é excedida: o fusível de proteção do motor dispara.</p> <p>Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.</p>
A turbina não liga após esvaziar o depósito.	<p>Desligar o aspirador e aguardar 5 s, após 5 s ligar novamente.</p> <p>Limpar os sensores de nível de enchimento (42), bem como o intervalo entre os sensores de nível de enchimento (42) com uma escova.</p>
A potência de aspiração diminui.	<p>Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, tubo de aspiração, mangueira de aspiração (27) ou filtro de pregas planas (31).</p> <p>Trocar o saco de plástico (29)/saco de filtro de velo (37).</p> <p>Engatar corretamente a cobertura do filtro (40).</p> <p>Colocar corretamente a parte superior do aspirador (12) e fechar os fechos (15).</p> <p>Trocar o filtro de pregas planas (31).</p>
Saída de pó ao aspirar	<p>Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (31).</p> <p>Trocar o filtro de pregas planas (31).</p>
O desligamento automático (aspiração a úmido) não é ativado.	<p>Limpar os sensores de nível de enchimento (42), bem como o intervalo entre os sensores de nível de enchimento (42) com uma escova.</p> <p>Sempre verifique o nível de enchimento.</p>
A limpeza automática do filtro não funciona.	<p>Mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (7).</p> <p>Se o problema persistir, contate um posto de assistência técnica Bosch autorizado.</p>
A limpeza manual do filtro não se deixa ativar.	<p>A proteção contra sobreaquecimento do aspirador está ativada.</p> <p>A pressão 10 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 20 s.</p> <p>A pressão 30 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 4 min.</p> <p>Se o problema persistir, contate um posto de assistência técnica Bosch autorizado.</p>
A limpeza automática do filtro não é ativada.	<p>Contate um posto de assistência técnica Bosch autorizado.</p>

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes também em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontre outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Descarte

Aspirador, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não descarte o aspirador no lixo doméstico!

中文

吸尘器相关安全规章



请阅读所有的安全规章和指示。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

应将所有安全规章和指示保存到将来。

- ▶ **儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员不得使用本吸尘器。否则会有误操作和人身伤害的危险。**
- ▶ **请监督好儿童。以确保儿童不使用吸尘器玩耍。**
- ▶ 遵守待抽吸物质的所有安全规定。
- ▶ 切勿抽吸榉木屑或橡木屑、矿物性粉尘或石棉。这些物质可能致癌。

警告！ 只有当您充分了解有关吸尘器使用、待抽吸的材料及其安全

处理的情况下，才能使用吸尘器。详细的指导可以减少误操作及人身伤害。

警告！ 本吸尘器适用于抽吸干燥物质，在采取相应措施的情况下也可以抽吸液体。液体渗入会增加触电风险。

▶ 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

警告！ 电源插座仅可用于使用说明中规定的用途。

警告！ 一旦有泡沫或水溢出，请立即关闭吸尘器并清空。否则可能会损坏吸尘器。

▶ **注意！** 本吸尘器只能在室内保存。

▶ **注意！** 定期清洁液体的液位传感器并检查是否损坏。否则可能会影响功能。

▶ 如果在潮湿环境下操作吸尘器是不可避免的，应使用故障电流保护开关。使用故障电流保护开关可减少电击危险。

▶ 每次使用前都要检查吸尘器、电源线和插头。一旦发现损坏，请勿使用吸尘器。请勿自行打开吸尘器，只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。吸尘器，电线和插头如果损坏了会提高触电的危险。

▶ 切勿碾压或挤压电源线。切勿拉扯电源线以将插头从电源插座上拔下或移动吸尘器。损坏的电线会提高用户触电的危险。

▶ 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

▶ 要确保工作场所通风良好。

▶ 吸尘器只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。如此才能确保吸尘器的安全性能。

警告！ 吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。

▶ 调试前，检查集尘软管的状态是否正常。同时将集尘软管安装到集尘器上，以防粉尘意外溢出。否则您可能会吸入粉尘。

▶ 不要将集尘器作为坐具使用。这样会损坏吸尘器。

▶ 请小心地使用电源线和集尘软管。因为上述机件可能危及他人。

▶ 清洁吸尘器时，不可以把水柱直接瞄准吸尘器。雨水或湿气进入吸尘器上部会增加电击风险。

▶ 将吸尘器与正常接地的电网连接。电源插座和延长线必须带有功能完好的安全引线。

▶ 湿式吸尘时或在潮湿环境中切勿使用吸尘器上的插座。接触水时有造成短路或触电的危险。

图标

以下符号可以帮助您正确地使用本吸尘器。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以让您更有把握更安全地操作本吸尘器。

图标及其含义



警告！请阅读所有安全规章和指示。不遵守安全规章和指示可能会导致触电、着火和/或严重伤害。



符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级L的吸尘器，用于**干式抽吸**危害健康的粉尘（粉尘爆炸限值为 > 1 毫克/立方米）



警告！吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用**集尘器**。否则会危害身体健康。



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

最多只能点击一个L-Boxx。


L-Boxx及其内含物的重量不得超过15公斤。



例如在运输途中切勿将吸尘器悬挂在吊车挂钩上。吸尘器不能用吊车吊运。有受伤和损坏的危险。



不要将吸尘器用作座位、梯子或踏板。否则吸尘器可能会翻倒并受损。有受伤的危险。



A

A

自动过滤器清洁模式LED指示灯

M

M

手动过滤器清洁模式LED指示灯



自动过滤器清洁按钮



手动过滤器清洁按钮

图标及其含义



自动启停

吸除运行中的电动工具的积尘
吸尘器自动接通并延时关闭。
吸尘器上的插座始终处于带电状态。



关闭

吸尘器上的插座不带电。



吸尘


吸取沉积的粉尘和抽吸系统中的粉尘。
吸尘器上的插座始终处于带电状态。



最小/最大

吸力无级调节：

- 最大吸尘功率，适用于大量粉尘产生的应用
- 吸尘功率降低，适用于少量粉尘产生的应用以及用于调节连接的电动工具和工件表面之间的吸力（例如在打磨时）



数据记录功能在本吸尘器中已激活。

max.
2100 W

min.
100 W

说明所连接的电动工具的允许连接功率（视国家而定）

产品和性能说明

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本吸尘器可以收集、吸除、运输和存放非易燃的干粉尘和非易燃液体。本吸尘器经过粉尘技术的检验并符合粉尘等级L。因其较高的负载适合使用在商业用途中，例如手工业、工业和修理厂。

符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级L的吸尘器只允许用于抽吸危害健康的粉尘（暴露限值 > 1毫克/立方米）。

必须熟悉所有的操作功能，并且能够不受限制地执行各功能时才可以对本吸尘器。否则得有充分的指导才能够操作本吸尘器。

插图上的机件

图示组件的编号和吸尘器详解图上的编号一致。

- (1) 容器
- (2) 主开关
- (3) 软管定位件
- (4) 电动工具插座

- (5) 自动过滤器清洁模式LED指示灯A
- (6) 手动过滤器清洁模式LED指示灯M
- (7) 手动过滤器清洁按钮
- (8) 自动过滤器清洁按钮
- (9) 吸尘功率调节器
- (10) 提手
- (11) L-BOXX定位座
- (12) 吸尘器上部件
- (13) 系带
- (14) 固定口
- (15) 吸尘器上部件锁止件
- (16) 滚轮
- (17) 导向滚轮
- (18) 导向滚轮制动器
- (19) 电缆支架
- (20) 用于可拉伸导向支架的导轨
- (21) 后部手柄区域
- (22) 组合式刷式吸嘴
- (23) 组合式抽吸适配接头 (用于电动工具)
- (24) 过滤器盖板锁止片
- (25) 预滤器盖
- (26) 预滤器解锁按钮
- (27) 抽吸软管
- (28) 弯曲吸嘴
- (29) 塑料袋
- (30) 通气口
- (31) 扁平折叠式过滤器
- (32) 抽吸软管按钮
- (33) PowerTool适配接头 (前部)
- (34) PowerTool适配接头 (后部)
- (35) 组合式刷式吸嘴解锁按钮
- (36) 无纺布滤袋支架^{a)}
- (37) 无纺布滤袋^{a)}
- (38) 导向支架按钮^{a)}
- (39) 可拉伸导向支架^{a)}
- (40) 扁平折叠式过滤器盖板
- (41) 预滤器
- (42) 料位传感器
- (43) 浮标
- (44) 浮标锁止器
- (45) 磁铁

a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术参数

湿式/干式吸尘器	GAS 400 A
物品代码	3 601 JMO 0..

湿式/干式吸尘器	GAS 400 A	
额定电压	伏特	220-240
额定输入功率	瓦	1200
频率	赫兹	50-60
容器容积 (毛容积)	升	40
净容积 (干)	升	28
净容积 (液体)	升	20
最大真空 ^{A)}		
- 吸尘器	百帕	220
- 涡轮	百帕	240
最大流量 ^{A)}		
- 吸尘器	升/秒	31
	立方米/小时	111.6
- 涡轮	升/秒	80
	立方米/小时	288
粉尘等级		L
重量 ^{B)}	公斤	14.0
保护等级		⊕/I
防护类型		IPX4

A) 使用直径为28 mm和长度为4 m的抽吸软管测量

B) 不含电源线和电源插头的重量

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。

自动启停			
3 601 JMO ...	额定电压	最大功率	最小功率
080	220伏特	2100瓦	100瓦
020/0F0/ 0K0/0E0	220-240伏特	2100瓦	100瓦
0L0	220-240伏特	1660瓦	100瓦
0H0/0N0	220-240伏特	1000瓦	100瓦

说明所连接的电动工具的允许连接功率。

在其他国家的型号上，这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。

安装

- ▶ 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

安装吸尘器配件 (见图片A)

抽吸软管(27)装备有卡子系统，可以通过吸尘器配件 (组合式抽吸适配接头(23)、弯曲吸嘴(28)、组合式刷式吸嘴(22)) 连接。

安装弯曲吸嘴

- 将弯曲吸嘴(28)插到抽吸软管(27)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(32)的卡止声。
- 拆除时向内按压两个按钮(32)，并将部件拉开。

安装组合式抽吸适配器

组合式抽吸适配器(23)由PowerTool适配器(前部)(33)和PowerTool适配器(后部)(34)组成。

组合式抽吸适配器(23)兼容博世电动工具。

PowerTool适配器(后部)(34)内径为38.5毫米,外径为45毫米,也可用于其他制造商的电动工具。

将PowerTool适配器(前部)(33)插到PowerTool适配器(后部)(34)上,并将二者通过向反方向旋转完成连接(见图B)。

将组合式抽吸适配器(23)插到抽吸软管(27)上,直到听见抽吸软管的两个按钮(32)卡止。

拆除时向内按压两个按钮(32),并将组合式抽吸适配器从吸尘软管上拔出。

请将两个适配器朝相反方向转动并相互拉开,以断开连接。

安装组合式刷式吸嘴

将组合式刷式吸嘴(22)插到抽吸软管(27)上,直到听见抽吸软管的两个按钮(32)卡止。

拆除时向内按压两个按钮(32),并将部件拉开。

调节组合式刷式吸嘴(见图C)

组合式刷式吸嘴(22)可用作缝隙吸嘴或刷子。

按下解锁按钮(35)并将刷子向前推,以将组合式刷式吸嘴(22)用作刷子。

按下解锁按钮(35)并将刷子向后推,以将组合式刷式吸嘴(22)用作缝隙吸嘴。

安装抽吸软管(参见插图D)

将抽吸软管(27)插到软管定位件(3)上,并按照顺时针方向旋转直至限位。

提示: 吸尘时由于灰尘在抽吸软管和配件中摩擦而产生静电,用户能感觉到静电放电(取决于环境条件和身体感知)。

一般博世建议在抽吸细小的灰尘和干燥材料时使用防静电抽吸软管(配件)。

将抽吸软管在吸尘器上固定(见图E)

将组装好的抽吸软管(27)卷入抽吸软管盒。向上拉两根系带(13),将它们钩入固定口(14)中。

装入/取出塑料袋(干式吸尘)(见图F)

打开两个锁止件(15),取下吸尘器上部件(12)。

将一个塑料袋(29)装入容器(1)中,以进行干式吸尘。

将塑料袋(29)加注口朝上放入容器(1)中。

确保塑料袋(29)完全贴在容器(1)的内壁上。

将塑料袋(29)的剩余部分盖在容器(1)的边缘上。确保塑料袋的止动线位于容器边缘,并且通气口(30)保持在容器中。

再次装上吸尘器上部件(12),然后用锁止件(15)锁止吸尘器。

► 务必确保吸尘器已牢牢锁止。

取出塑料袋之前,先将其密封。收拢塑料袋的上部袋口,并用带子扎紧。

装入/取出无纺布滤袋(干式吸尘)(见图G-H)

您可以使用无纺布滤袋(37)(附件)对粉尘等级为L的材料进行干式吸尘。

如果吸取的材料没有或暴露限值 ≥ 1 毫克/立方米(相当于粉尘等级L),则可以直接将其吸入容器中。

提示: 使用无纺布滤袋时,请关闭自动过滤器清洁(参见“自动/手动过滤器清洁(见图M)”,页59)。

警告! 吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作,包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。

打开锁止件(15),取下吸尘器上部件(12)。

使用时将无纺布滤袋(37)插到无纺布滤袋支架(36)上,并将无纺布滤袋(37)和无纺布滤袋支架(36)一起装入容器(1)中。

请拉动锁止件,封闭整个无纺布滤袋的开口,以其取下。将已封口的无纺布滤袋(37)从无纺布滤袋支架(36)上拔出,并从吸尘器中取出。

再次装上吸尘器上部件(12),并通过关闭锁止件(15)将容器(1)连接吸尘器上部件(12)。

点击L-Boxx(参加插图I)

要运输吸尘器以及节省空间的存放吸尘器配件和/或电动工具,您可以在吸尘器的上半部点击L-Boxx。

将抽吸软管在吸尘器上固定(见图E)。

点击定位座(11)上的L-Boxx。

► **不要在点击L-Boxx的情况下吸尘。** 吸尘器的重心向上移动。吸尘器可能会翻倒。有受伤和损坏的危险。

► **不要使用已点击L-Boxx的手提把手提起吸尘器。** 吸尘器对L-Boxx的手提把手而言太重。有受伤和损坏的危险。

安装可拉伸导向支架(附件)(见图J-K)

提示: 可拉伸导向支架无法拆下。安装时注意导向支架的正确定位。

装入导向支架(39)之前,根据R(右)和L(左)标记对准导向支架。

将导向支架(39)装入导轨(20)。

将导向支架(39)向下压至止动线,直到听到导向支架卡止。

按压按钮(38),以更改导向支架(39)的长度。

运行

► **在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前,先拔出插头。** 这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

投入使用

► **注意电源电压!** 电源的电压必须和吸尘器铭牌上标示的电压一致。

► **请了解在贵国处理有损健康的灰尘时需遵守的现行法规/法律。**

吸尘器允许用于吸除以下材料：

- 粉尘爆炸限值大于1毫克/立方米

基本上不能在有爆炸危险的场所使用本吸尘器。为保障最佳的吸尘功率，必须将抽吸软管(27)完全从吸尘器上半部(12)展开。

调节吸力

通过吸尘功率调节器(9)可以无级调节吸力。对于产生大量粉尘的应用，将吸尘功率调节器(9)调至最高档位。

如需用于少量粉尘产生的应用以及用于调节连接的电动工具和工件表面之间的吸力（例如在打磨时），将吸尘功率调节器(9)调至低功率档。

吸尘器上的插座

- **注意吸尘器上插座的允许连接功率。超过最大允许连接功率会导致吸尘器过载。将触发电机保护保险丝。** 将吸尘器发送给经授权的Bosch客户服务中心。

一旦吸尘器电源插头插入插座且主开关位于位置1，则电动工具插座(4)处于通电状态。它可以用作吸尘器上的外部电源接口，例如搭配抽吸系统工作时。主开关位于位置1+时，吸尘器的自动启停功能激活。可以通过所连接的电动工具远程接通吸尘器。

干式吸尘

吸除积尘



如需**接通吸尘器**，请将主开关(2)转到位置1。



如需**关闭吸尘器**，请将主开关(2)转到位置0。

吸除运行中的电动工具的积尘（见图L）

- **如果废气回流至室内，必须保证在室内有充足的空气交换率。注意各国有关的法规。**

在吸尘器中内置了一个电动工具插座(4)。您可在该插座上连接一个外部的电动工具。注意所连接的电动工具的最大允许连接功率。

安装组合式抽吸适配接头(23)（见图B）。

将组合式抽吸适配接头(23)插入电动工具的抽吸套管中。



如需**接通吸尘器的自动启停功能**，请将主开关(2)转到位置1+。

如需**调试吸尘器**，接通与插座(4)连接的电动工具。此时吸尘器会自动启动。

关闭电动工具，以**结束吸尘作业**。

自动启停功能最多延迟运行15秒钟，以吸除抽吸软管中剩余的灰尘。



如需**关闭吸尘器**，请将主开关(2)转到位置0。

使用抽吸系统（附件）



将抽吸系统连接到抽吸软管(27)上。

如需**通过抽吸系统吸尘**，请将主开关(2)转到位置1。

将抽吸系统抵在墙面上，然后接通电动工具。由于产生的负压，抽吸系统会自行吸附住。关闭电动工具，然后抽吸系统小心地从墙面上取下。



如需**关闭吸尘器**，请将主开关(2)转到位置0。

湿式吸尘

- **切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。** 上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

- **吸尘器不得作为水泵使用。** 吸尘器专为抽取空气和水的混合物而设计。

提示：对于透过率的要求（粉尘等级L）证明仅适用于干式抽吸。

湿式吸尘前

清空容器(1)，取出塑料袋(29)或无纺布滤袋(37)。检查料位传感器(42)的脏污程度。只有干净的料位传感器才能在容器料位满时自动关闭吸尘器（参见“清洁料位传感器（见图Q-R）”，页59）。

- **湿式吸尘期间，自动过滤器清洁必须关闭。**

按压自动过滤器清洁按钮(8)，以激活手动过滤器清洁（参见“手动过滤器清洁”，页59）。由此关闭自动过滤器清洁，LED指示灯A(5)熄灭。

吸除液体

警告！

一旦有泡沫或水溢出，请立即关闭吸尘器并清空。否则可能会损坏吸尘器。

如需**接通吸尘器**，请将主开关(2)转到位置1。

吸尘器配有料位传感器(42)。当到达最高料位时，吸尘器会自动关闭，LED指示灯A(5)和M(6)会同时以每秒1次的频率闪烁。重启保护已激活，可以通过接通/关闭吸尘器1次来停用。

提示：定期检查料位，及时清空容器。

如需**关闭吸尘器**，请将主开关(2)转到位置0。

握住容器(1)的后部手柄区域(21)，并翻转容器，以将液体向前排空。

湿式吸尘后

每次湿式吸尘后都要清洁料位传感器(42)（参见“清洁料位传感器（见图Q-R）”，页59）。

湿式吸尘后为了避免形成霉菌：

- 取出扁平折叠式过滤器(31)，并让其充分风干。

- 取下吸尘器上半部(12)，打开过滤器盖板(40)并让两者充分风干。

自动/手动过滤器清洁 (见图M)

自动过滤器清洁

提示：接通吸尘器时，自动过滤器清洁为默认设置。

LED指示灯A(5)常亮。

使用自动过滤器清洁时，扁平折叠式过滤器(31)每15秒通过2次空气振荡（伴随脉动噪音）清洁一次。

定期使用过滤器清洁可提高过滤器的使用寿命。为达到理想的过滤器使用寿命，只有在特殊情况下，如进行湿式吸尘时，才停用自动过滤器清洁。

手动过滤器清洁

按压自动过滤器清洁按钮(8)，以激活手动过滤器清洁。由此关闭自动过滤器清洁，LED指示灯A(5)熄灭。

按压手动过滤器清洁按钮(7)，以执行手动过滤器清洁。扁平折叠式过滤器(31)通过2次空气振荡清洁。LED指示灯M(6)亮起白色2秒。当LED指示灯M(6)熄灭时，可以触发下一次空气振荡。为此，再次按压手动过滤器清洁按钮(7)。

提示：进行手动过滤器清洁时，注意每次按下按钮的时间间隔为2-3秒。多次连续按下手动过滤器清洁按钮(7)会触发吸尘器过热保护。过热保护会在一段时间后自动解除(参见“排除故障”，页60)。

按下自动过滤器清洁按钮(8)，以关闭手动过滤器清洁。

表面脏污的扁平折叠式过滤器功能完全正常。无需通过拍打或吹净扁平折叠式过滤器进行手动清洁，这甚至会损坏过滤器。

维修和服务

保养和清洁

- ▶ 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。
- ▶ 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。
- ▶ 在保养和清洁吸尘器时带上防尘面具。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

操作者自行维修吸尘器时先要拆开吸尘器，然后在可执行的范围内进行清洁的工作，清洁时绝对不可以对维修者本身或他人造成危险。拆开吸尘器之前应该先清洗吸尘器，以避免可能发生的危险。拆开吸尘器的场所必须保持通风良好。进行维修时得穿戴好个人的防护装备。维修后应该要能够达到彻底清洁维修部位的效果。

每年至少一次，由制造商或经过培训的人员进行一次吸尘功能的检查，例如检查过滤器是否有毁损，吸尘器的密闭性以及控制装备的功能等。

如果粉尘等级L的吸尘器曾位于脏污环境中，则应清洁外部以及所有机器部件或用密封剂进行处理。执行保养和维修操作时，必须对所有清洁未达到满意程度的零件作废弃处理。此类零件必须装在不通透的袋子里，按照此类废弃物运行的规定进行处理。

- 请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。

清洁容器

请不时地用市售非研磨性清洁剂擦拭容器(1)并晾干。

清洁/更换扁平折叠式过滤器 (见图N-O)

- ▶ 通过抓住闭合接片来打开过滤器盖板，确保打开的过滤器盖板卡在垂直位置。过滤器盖板掉落时存在受伤危险。

吸尘功率取决于过滤器状态。因此请定期清洁过滤器。

立刻更换已损坏的扁平折叠式过滤器(31)。

- 拉住锁止片(24)，将过滤器盖板(40)向上翻，直到它卡在垂直方向上。
- 抓住扁平折叠式过滤器(31)的环边，将其向上取出。
- 使用湿布从容器(1)的边缘清除取出扁平折叠式过滤器(31)时落下的粉尘和污垢。
- 可以用水流冲净扁平折叠式过滤器。
- 将新的或清洗过的扁平折叠式过滤器(31)装入，注意牢固和正确安装。
- 关上过滤器盖板(40)，直到听到卡止声。

清洁预滤器 (见图P)

- ▶ 预滤器不得湿洗。

- ▶ 不要从上方探入导向支架和吸尘器之间的区域以解锁预滤器盖。这样可能会夹伤您的手。

向上拉导向支架(39)，直到能从后方接触到预滤器盖。

按压预滤器盖(25)的解锁按钮(26)，将预滤器盖从预滤器盒中取出。

取出预滤器(41)。

用软毛刷刷净预滤器的片层。

将预滤器放入预滤器盖(25)。

将预滤器盖(25)放入预滤器盒并翻入。

清洁料位传感器 (见图Q-R)

将吸尘器的电源插头从插座中拔出。

取下吸尘器上部件(12)。

清空容器(1)。

移动或轻击浮标(43)，以清除脏污。

用软布清洁浮标(43)。

必要时也可取下浮标。为此按压锁止件(44)，取出浮标(43)。

用刷子清洁磁铁(45)。

重新装入浮标(43)。

存储和运输

- 将电源线缠到电线支架(19)上。
- 将配件插入规定的支架内。

- 将组装好的抽吸软管(27)卷入抽吸软管盒。向上拉两根系带(13)，将它们钩入固定口中。
- 点击定位座(11)上的L-BOX。
- 如果塑料袋/无纺布滤袋已满，则立即将其取出。
- 只能使用提手(10)提起吸尘器。
- 在干燥平整的地方存储吸尘器，防止未经授权使用。
- 为固定导向滚轮(17)，请踩下导向滚轮制动器(18)。
- 为了以保护背部的方式更轻松搬运吸尘器，请完全清空容器或废弃处理已满的塑料袋/无纺布滤袋。
- 解锁导向滚轮制动器(18)，以推动或拉动吸尘器。
- 仅使用已拉伸的导向支架(39)来推动或拉动吸尘器。不得用导向支架将吸尘器拉过台阶。这种情况下应使用提手。
- 搬运吸尘器上楼梯时，确保身后没有其他人，以防吸尘器意外掉落。

排除故障

- ▶ 当出现故障时(比如过滤器破裂)，必须立即关闭吸尘器。排除故障后可以重新使用。

问题	解决措施
吸气涡轮无法启动。	检查电源线、电源插头、保险丝、插座和料位传感器(42)。主开关(2)处于“自动启停”位置。 将主开关(2)调至图标“抽吸”或接通连接在电源插座(4)上的电动工具。
吸气涡轮自行关闭。	湿式吸尘时，LED指示灯A和M会同时缓慢闪烁。 清空容器(1)。 干式吸尘时，LED指示灯A和M会同时快速闪烁：吸尘器上的插座过载保护已激活。 关闭电动工具。
吸尘器自行关闭。	由于超过吸尘器上插座的最大电压，导致吸尘器过载：电机保护保险丝触发。 将吸尘器发送给经授权的Bosch客户服务中心。
在排空容器后吸气涡轮无法再次启动。	关闭吸尘器并等待5秒，5秒后再次打开。 用刷子清洁料位传感器(42)以及料位传感器(42)之间的间隙。
吸力下降。	清除吸嘴、吸管、抽吸软管(27)或扁平折叠式过滤器(31)的堵塞物。 更换塑料袋(29)/无纺布滤袋(37)。 将过滤器盖板(40)正确卡入。 正确安装吸尘器上部件(12)并闭合锁止件(15)。 更换扁平折叠式过滤器(31)。
吸尘时粉尘溢出	检查扁平折叠式过滤器(31)是否正确安装。 更换扁平折叠式过滤器(31)。
自动断开装置(湿式吸尘)不响应。	用刷子清洁料位传感器(42)以及料位传感器(42)之间的间隙。 持续监控料位高度。
自动过滤器清洁不工作。	按压手动过滤器清洁按钮(7)，以切换至手动模式。 如果问题仍然存在，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
手动过滤器清洁无法触发。	吸尘器过热保护已激活。 连续按压手动过滤器清洁按钮(7)10次后，过热保护已触发。过热保护会在20秒后自动解除。 连续按压手动过滤器清洁按钮(7)30次后，过热保护已触发。过热保护会在4分钟后自动解除。 如果问题仍然存在，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
自动过滤器清洁不触发。	请联系经授权的Bosch客户服务中心。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也

可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区 滨康路567号
102/1F 服务中心
邮政编码：310052
电话：(0571)8887 5566 / 5588
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#
电邮：bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物

必须使用符合环保要求的方式处理废弃的吸尘器、附件和包装材料。



请勿将吸尘器扔到生活垃圾中！

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分	○	○	○	○	○	○
外壳的非金属部分	○	○	○	○	○	○
机械传动机构	X	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	○	○	○
控制组件	X	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
连接件	X	○	○	○	○	○
电源线①	○	○	○	○	○	○
电池系统②	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

繁體中文

吸塵器安全注意事項



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。

請妥善保存所有安全注意事項與指示，以供日後查閱之用。

► 本吸塵器不適合兒童以及體能、知覺或智能有障礙之人士，或者不具備充分經驗及知識者使用。否則可能會造成操作上的錯誤以及受傷危險。

▶ 請留意兒童的安全。如此才能確保他們未將本吸塵器當做玩具任意玩耍。

- ▶ 請遵守待吸除物質的所有安全規定。
- ▶ 請勿用於吸除櫟木屑、橡木屑、礦物粉塵或石棉。這些物質已認定為致癌物。

警告 您必須先瞭解吸塵器本身的使用方式、欲吸除之物質以及安全處置該物質的方式等相關資訊之後，才可開始使用吸塵器。謹慎的事前教育訓練可減少操作錯誤或人員受傷。

警告 吸塵器本身僅適合用於吸除乾燥材料，並且在採取適當措施後亦可用來吸除液體。如有液體滲入將增加觸電風險。

▶ 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之空間裡運轉。上述灰塵、蒸氣或液體可能自然或爆炸。

警告 此插座僅可用於操作說明書中指定的用途。

警告 若有任何泡沫漏出機外或有水滲出，請立刻關閉吸塵器電源並清空容塵器。否則吸塵器可能損壞。

- ▶ 注意！此吸塵器僅能存放在室內。
- ▶ 注意！定期清潔液體滿載感應器，並檢查該部件有無受損。否則，浮球的運作功能可能受影響。
- ▶ 如果無法避免在潮濕環境下操作吸塵器，應使用漏電保護開關。使用漏電保護開關可降低觸電風險。

▶ 每次使用前，請仔細檢查吸塵器、電線及插頭。若有發現任何受損現象，請勿使用吸塵器。請勿自行拆開吸塵器，而是應該將它交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。吸塵器、電線和插頭如果損壞了，將增加觸電風險。

▶ 不可輾壓或擠壓電線。將插頭拔出插座時或移動吸塵器時，請勿直接拉扯電線。損壞的電線將增加觸電風險。

▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

- ▶ 要確保工作場所通風良好。
- ▶ 請務必將吸塵器交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能確保吸塵器的安全性。

警告 本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。



▶ 正式運轉前，請確認吸塵軟管是否狀況良好。此時請將吸塵軟管確實裝到吸塵器上，以免粉塵意外洩露。若不這樣做，您可能會吸入廢塵。


- ▶ 切勿將吸塵器當作椅子使用。這樣可能造成吸塵器損壞。
- ▶ 使用電源線及吸塵軟管時，請您小心謹慎。因為上述部件可能危及他人安全。
- ▶ 清潔時，勿用水柱直噴吸塵器。如有水滲入吸塵器上部，將增加觸電風險。
- ▶ 請將吸塵器連接至合規的已接地市電電力網。插座與延長線都必須具有接地保護設計。
- ▶ 進行溼式吸塵或在潮濕環境中時，請勿使用吸塵器上的插座。接觸到水即可能造成短路或觸電風險。


符號

以下符號可以幫助您正確地使用本吸塵器。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號的代表意義，可以讓您更有把握更安全地操作本吸塵器。


符號和它們的代表意義


  **警告！** 請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員觸電及 / 或重傷。


 此吸塵器的除塵等級為 L，符合 IEC/EN 60335-2-69，這是針對乾式吸塵暴露濃度 $> 1 \text{ mg/m}^3$ 之有害粉塵而制定的標準規範

 **警告！** 本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。




 僅能點選一個 L-BOXX。
max. 1 L-Boxx
max. 15 kg
L-BOXX 連同其內容物之重量不得超過 15 kg。

 搬運時，請勿將吸塵器掛在起重機的掛鉤上。吸塵器不可用起重機吊運。可能會造成人員受傷或物品損壞。

 請勿將吸塵器當做座椅、梯子或登高踏墊使用。吸塵器可能會傾倒而受損。人員有受傷之虞。

符號和它們的代表意義



	A 濾網自動清潔模式 LED 指示器
	M 濾網手動清潔模式 LED 指示器
	濾網自動清潔按鈕
	濾網手動清潔按鈕
	自動啟停機制 吸除電動工具運轉時產生的粉塵；吸塵器會自動啟動，並延遲關閉。吸塵器上的插座全程處於通電狀態。
	關閉 吸塵器上的插座未通電。
	吸塵 吸除積塵與吸塵系統中之灰塵。吸塵器上的插座全程處於通電狀態。
	最小 / 最大 無段式吸力調節： - 最大吸力可供產生大量粉塵的應用情境使用 - 降低吸力可供產生較少粉塵的應用情境使用，並調節所連接電動工具和工件表面之間的吸力（例如進行研磨時）
	已於此吸塵器上啟用數據測量記錄功能。
	所連接之電動工具的允許連接功率相關說明（視國別而有所差異） max. 2100 W min. 100 W

產品和規格性能

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本吸塵器適用於收集、吸除、輸送和分離不可燃的乾燥粉塵和不可燃液體。本吸塵器已接受過粉塵技術性檢驗，並且符合粉塵等級 L。此吸塵器可適用於工商業界之高密度使用頻率，例如：手工業、工業和維修廠。

符合 IEC/EN 60335-2-69 的粉塵等級 L 吸塵器僅適用於吸除暴露濃度 $> 1 \text{ mg/m}^3$ 的有害粉塵。

必須熟悉所有的操作功能，並且能夠不受限制地執行各功能時才可以使用本吸塵器。否則須接受充分指導才能操作本吸塵器。

插圖上的機件

機件的編號和吸塵器詳解圖上的編號一致。

- (1) 集污箱
- (2) 總開關
- (3) 軟管接口
- (4) 連接電動工具的插座
- (5) 濾網自動清潔模式 LED 指示器 **A**
- (6) 濾網手動清潔模式 LED 指示器 **M**
- (7) 濾網手動清潔按鈕
- (8) 濾網自動清潔按鈕
- (9) 吸力調節器
- (10) 提把
- (11) L-BOXX 支座
- (12) 吸塵器上部
- (13) 拉帶
- (14) 固定孔
- (15) 吸塵器上部鎖扣
- (16) 滾輪
- (17) 轉向滾輪
- (18) 轉向滾輪制動器
- (19) 電線托架
- (20) 可拉出式推拉桿的導軌
- (21) 後握持區
- (22) 組合式刷頭
- (23) 組合式吸塵轉接頭（適用於電動工具）
- (24) 濾器蓋的鎖定片
- (25) 粗濾器蓋
- (26) 粗濾器解鎖按鈕
- (27) 吸塵軟管
- (28) 彎管吸頭
- (29) 塑膠袋
- (30) 通風口
- (31) 平摺式濾網
- (32) 吸塵軟管按鈕
- (33) PowerTool 轉接頭（前部）
- (34) PowerTool 轉接頭（後部）
- (35) 組合式刷頭解鎖按鈕
- (36) 不織布濾袋支架^{a)}
- (37) 不織布濾袋^{a)}
- (38) 推拉桿按鈕^{a)}
- (39) 可拉出式推拉桿^{a)}
- (40) 平摺式濾網濾器蓋

- (41) 粗濾器
- (42) 液位感測器
- (43) 浮球
- (44) 浮球鎖止裝置
- (45) 磁鐵

a) 圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

技術性數據

乾溼兩用吸塵器		GAS 400 A	
產品機號		3 601 JMO 0..	
額定電壓	V	220-240	
額定輸入功率	W	1200	
頻率	Hz	50-60	
集污箱容量 (毛容量)	l	40	
淨容量 (乾燥)	l	28	
淨容量 (液體)	l	20	
最大負壓 ^{A)}			
- 吸塵器	hPa	220	
- 渦輪	hPa	240	
最大流量 ^{A)}			
- 吸塵器	l/s	31	
	m ³ /h	111.6	
- 渦輪	l/s	80	
	m ³ /h	288	
粉塵等級		L	
重量 ^{B)}	kg	14.0	
絕緣等級		⊕/I	
防護等級		IPX4	

A) 使用直徑 28 mm、長度 4 m 的吸塵軟管進行測量

B) 不包括電源線和電源插頭的重量

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見 www.bosch-professional.com/wac。

自動啟停機制			
3 601 JMO ...	額定電壓	最大功率	最小功率
O80	220 V	2100 W	100 W
O20/OF0/ OK0/OE0	220-240 V	2100 W	100 W
OL0	220-240 V	1660 W	100 W
OHO/ONO	220-240 V	1000 W	100 W

所連接之電動工具的允許連接功率相關說明。其他特定國家機型的這項數據可能不同。請您留意吸塵器插座上標示的數據。

安裝

- ▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

安裝吸塵器配件 (請參考圖 A)

吸塵軟管 (27) 採用卡夾系統，可直接連接吸塵器配件 (組合式吸塵轉接頭 (23)、彎管吸頭 (28)、組合式刷頭 (22))。

安裝彎管吸頭

- 將彎管吸頭 (28) 插在吸塵軟管 (27) 上，直至聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (32) 卡上的聲音。
- 拆卸時，將按鈕 (32) 往內按壓，然後拔開零組件即可。

安裝組合式吸塵轉接頭

此組合式吸塵轉接頭 (23) 由 PowerTool 轉接頭 (前部) (33) 和 PowerTool 轉接頭 (後部) (34) 組成。

此組合式吸塵轉接頭 (23) 與博世電動工具相容。此 PowerTool 轉接頭 (後部) (34) 可透過其 38.5 mm 之內徑和 45 mm 之外徑供其他製造商的電動工具使用。

請將此 PowerTool 轉接頭 (前部) (33) 插入 PowerTool 轉接頭 (後部) (34)，並將兩個轉接頭以往相反方向旋轉的方式連接 (請參考圖 B)。

將組合式吸塵轉接頭 (23) 插在吸塵軟管 (27) 上，直到聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (32) 卡上的聲音。

拆卸時，將按鈕 (32) 往內按壓，然後從吸塵軟管拔開組合式吸塵轉接頭即可。

若要分離這兩個轉接頭，請以相反方向旋轉以鬆開連接，然後將轉接頭拔開即可。

安裝組合式刷頭

將組合式刷頭 (22) 插在吸塵軟管 (27) 上，直到聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (32) 卡上的聲音。

拆卸時，將按鈕 (32) 往內按壓，然後拔開零組件即可。

調整組合式刷頭 (請參考圖 C)

您可以將組合式刷頭 (22) 作為隙縫吸頭或刷子使用。

請按下解鎖按鈕 (35) 並將刷子向前推，以將組合式刷頭 (22) 作為刷子使用。

請按下解鎖按鈕 (35) 並將刷子向後拉，以將組合式刷頭 (22) 作為隙縫吸頭使用。

安裝吸塵軟管 (請參考圖 D)

請將吸塵軟管 (27) 插在軟管接口 (3) 上，然後沿順時針方向旋轉到底。

提示：吸塵時，因吸塵軟管內與吸塵配件內的粉塵相互摩擦形成靜電，使用者可能感覺其靜電釋放 (視環境因素和身體感受而定)。

博世建議您：抽取細微粉塵和乾燥物質時原則上請使用抗靜電吸塵軟管 (配件)。

將吸塵軟管固定在吸塵器上 (請參考圖 E)

將安裝好的吸塵軟管 (27) 纏繞放置於吸塵軟管收納格中。請將兩條拉帶 (13) 向上拉並鉤入固定孔 (14) 中。

裝入 / 取出塑膠袋 (用於乾式吸塵) (請參考圖 F)

請打開兩個鎖扣 (15) 並取下吸塵器上部 (12)。
進行乾式吸塵時，請將塑膠袋 (29) 裝入集污箱 (1) 中。
將塑膠袋 (29) 的裝填口朝上然後裝入集污箱 (1) 內。
請確認，塑膠袋 (29) 整個緊貼在集污箱內壁 (1) 上。
將塑膠袋 (29) 的剩餘部分撐開套在集污箱邊緣 (1) 上。請確保塑膠袋的限位線位於集污箱邊緣，並將通風口 (30) 保留在集污箱中。
請再次裝上吸塵器上部 (12)，並使用鎖扣 (15) 關閉吸塵器。

▶ 請確保吸塵器始終確實關上。

取出塑膠袋前，請先將其封妥。將袋子的頂部捏緊，並使用帶子繫緊。

裝入 / 取出不織布濾袋 (用於乾式吸塵) (請參考圖 G-H)

若要對符合粉塵等級 L 的物質進行乾式吸塵，您可以裝入一個不織布濾袋 (37) (配件)。
若吸入的物質無或其暴露濃度 $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (符合粉塵等級 L)，即可直接吸入集污箱中。

提示：在使用不織布濾袋時，請關閉濾網自動清潔功能 (參見「濾網自動 / 手動清潔功能 (請參考圖 M)」，頁 66)。

警告 本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業 (包含清除集塵容器在內) 僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。

打開鎖扣 (15) 並取下吸塵器上部 (12)。

裝入時，將不織布濾袋 (37) 插在不織布濾袋支架 (36) 上，然後將不織布濾袋 (37) 連同不織布濾袋支架 (36) 裝入集污箱 (1) 中。

取出時，透過拉動鎖扣的方式封好裝滿的不織布濾袋開口。將已封好的不織布濾袋 (37) 從不織布濾袋支架 (36) 上拔下，然後從吸塵器中取出。

將吸塵器上部 (12) 重新套上，並透過關閉鎖扣 (15) 的方式將集污箱 (1) 連接至吸塵器上部 (12)。

扣上 L-Boxx (請參考圖 I)

若要搬運吸塵器以及以節省空間的方式收納吸塵器配件和 / 或電動工具，您可以在吸塵器上部扣上一個 L-Boxx。

請將吸塵軟管固定在吸塵器上 (請參考圖 E)。

請將 L-Boxx 扣上支座 (11)。

▶ 請勿在按下 L-Boxx 的情況下吸塵。吸塵器的重心會向上移動。吸塵器可能會傾倒。可能會造成人員受傷或物品損壞。

▶ 請勿使用已按下 L-Boxx 的提把搬動吸塵器。對於 L-Boxx 的提把來說，吸塵器太重。可能會造成人員受傷或物品損壞。

安裝可拉出式推拉桿 (配件) (請參考圖 J-K)

提示：可拉出式推拉桿無法拆卸。請確保推拉桿在安裝時正確對齊。

在裝入之前，按照標記 R (右) 和 L (左) 對準推拉桿 (39)。

請將推拉桿 (39) 裝入導軌 (20)。

請將推拉桿 (39) 按到底至限位線，直到聽見推拉桿卡上的聲音。

請按下按鈕 (38)，以改變推拉桿 (39) 的長度。

操作

▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

操作機器

▶ **注意電源的電壓！** 電源的電壓必須和吸塵器銘牌上標示的電壓一致。

▶ **請遵循所在地關於有害廢塵的適用規範 / 法律。**

本吸塵器可以吸集以下的物體：

– 暴露濃度 $> 1 \text{ mg/m}^3$ 的粉塵

原則上不能在具有爆炸危險的場所內使用本吸塵器。

為確保能達到最佳吸力，必須隨時將吸塵軟管 (27) 從吸塵器上部 (12) 一路完全伸展開來。

調節吸力

透過吸力調節器 (9) 即可無段式調節吸力。

針對產生大量粉塵的應用情境，請將吸力調節器 (9) 調整為最大吸力。

針對產生較少粉塵的應用情境以及為調節所連接電動工具和工件表面之間的吸力 (例如進行研磨時)，請將吸力調節器 (9) 調整至降低吸力的位置。

吸塵器上的插座

▶ 請注意吸塵器上插座容許的連接功率。超過最大容許的連接功率可能導致吸塵器過載。馬達保護功能將觸發。將吸塵器寄至授權的客戶服務中心 **Bosch**。

一旦將吸塵器的電源插頭插入插座，且總開關處於位置 1，電動工具的插座 (4) 便會通電。它可作為吸塵器上的外部電源連接使用，例如在使用吸塵系統作業時。在位置 1+ 時，吸塵器的自動啟停機制即啟用。透過連接的電動工具即可遙控啟動吸塵器。

乾式吸塵

吸除積塵



若要啟動吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 1。



若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

吸除電動工具運轉時產生的粉塵 (請參考圖 L)

- ▶ 氣體若是排放至室內，則須要有足夠的通風率。請遵照各國相關規定。

吸塵器有內建一個電動工具插座 (4)。您可從此插座連接外接式電動工具。請注意所連接之電動工具的最大允許連接功率。

安裝組合式吸塵轉接頭 (23) (請參考圖 B)。

請將組合式吸塵轉接頭 (23) 插入電動工具的吸塵接管內。



若要開啟吸塵器的自動啟停機制，請將總開關 (2) 轉至位置 1+。

啟動連接在插座 (4) 上的電動工具，吸塵器即可開始運轉。此時吸塵器會自動運動。

關閉電動工具時，吸塵功能也會同時停止。

自動啟停機制的延時運轉功能將繼續運轉 15 秒，以吸除吸塵軟管內殘留的粉塵。



若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

使用吸塵系統 (配件)



請將吸塵系統連接到吸塵軟管 (27)。

若要吸除吸塵系統上之灰塵，請將總開關 (2) 轉至位置 1。

請將吸塵系統貼近牆壁，並啟動電動工具。由於產生的負壓，吸塵系統會自行附著。

關閉電動工具，並小心地將吸塵系統從牆上取下。



若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

濕式吸塵

- ▶ 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之空間裡運轉。上述灰塵、蒸氣或液體可能自燃或爆炸。

- ▶ 不得將本吸塵器當做水泵使用。吸塵器的設計是適用於吸除水液與空氣的混合物。

提示：此防塵等級 (粉塵等級 L) 的認證僅適用於乾式吸塵。

進行濕式吸塵前

請清空集污箱 (1) 並取出塑膠袋 (29) 或不織布濾袋 (37)。

檢查液位感測器 (42) 是否有污物。唯有液位感測器乾淨的情況下，吸塵器才能在集污箱達到滿載裝填狀態時自動關閉 (參見「清潔液位感測器 (請參考圖 Q-R)」, 頁 67)。

- ▶ 在進行濕式吸塵時，必須停用濾網自動清潔功能。

請按下濾網自動清潔按鈕 (8)，以啟用濾網自動清潔功能 (參見「濾網自動清潔功能」, 頁 66)。濾網自動清潔功能將因而停用，且 LED 指示器 A (5) 也會熄滅。

吸除液體

警告 若有任何泡沫漏出機外或有水滲出，請立刻關閉吸塵器電源並清空容器。否則吸塵器可能損壞。

若要啟動吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 1。

本吸塵器配備有液位感測器 (42)。當達到最大裝填高度時，吸塵器將自動關閉，且兩個 LED 指示器 A (5) 和 M (6) 將以每秒 1 次的頻率同時閃爍。防止再起動功能即啟用，並可透過將吸塵器啟動 / 關閉一次而停用。

提示：請定期檢查裝填狀態並及時清空集污箱。

若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

請在後握持區 (21) 握住集污箱 (1)，將其向前擺動以排空液體。

進行濕式吸塵後

請在每次濕式吸塵後清潔液位感測器 (42) (參見「清潔液位感測器 (請參考圖 Q-R)」, 頁 67)。

進行濕式吸塵後，為避免發霉：

- 取出平摺式濾網 (31)，並使其徹底晾乾。
- 請取下吸塵器上部 (12)，打開濾器蓋 (40)，並使兩者徹底乾燥。

濾網自動 / 手動清潔功能 (請參考圖 M)

濾網自動清潔功能

提示：吸塵器啟動時，預設為濾網自動清潔功能。

LED 指示器 A (5) 會持續亮著。

在濾網自動清潔過程中，每 15 秒會透過 2 次噴氣清潔平摺式濾網 (31) (有脈衝聲)。

定期使用濾網清潔功能可以延長濾網的使用壽命。

為達到理想的濾網使用壽命，請僅在例外情況下停用濾網自動清潔功能，例如進行濕式吸塵時。

濾網手動清潔功能

請按下濾網自動清潔按鈕 (8)，以啟用濾網自動清潔功能。濾網自動清潔功能將因而停用，且 LED 指示器 A (5) 也會熄滅。

請按下濾網手動清潔按鈕 (7)，以進行濾網手動清潔。平摺式濾網 (31) 會透過 2 次噴氣進行清潔。

LED 指示器 M (6) 將亮起白燈 2 秒。當 LED 指示器 M (6) 熄滅時，即可觸發下一次噴氣。為此，請再次按下濾網手動清潔按鈕 (7)。

提示：在進行濾網手動清潔時，請注意每次按壓按鈕之間應有 2-3 秒的時間間隔。連續多次按壓濾網手動清潔按鈕 (7) 將導致吸塵器過熱保護功能啟用。過熱保護功能將在一段時間後自動解除 (參見「排除故障」，頁 67)。

若要關閉濾網手動清潔功能，請按下濾網自動清潔按鈕 (8)。

平摺式濾網即使表面髒污還是能發揮應有作用。您不必以敲拍或吹氣方式親自清潔平摺式濾網，這樣做反而可能造成濾網損壞。

維修和服務

保養與清潔

- ▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。
- ▶ 吸塵器和通氣孔必須隨時保持清潔，以確保工作效率和工作安全。
- ▶ 維修和清潔吸塵器時，請戴上防塵面罩。

如果必須更換連接線，請務必交由 **Bosch** 或者經授權的 **Bosch** 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

操作者自行維修吸塵器時要先拆開吸塵器，然後在可執行的範圍內進行清潔的工作，清潔時絕對不可以對維修者本身或他人造成危險。拆開吸塵器之前應該先清潔吸塵器，以防止可能發生的危險。拆開吸塵器的場所必須保持通風良好。進行維修時得穿戴好個人的防護裝備。維修後，應要清潔維修部位。

每年至少一次，本產品得交由製造商或經過培訓的人員進行一次吸塵功能檢查，例如檢查濾網是否損壞，吸塵器的密閉性以及控制裝置的功能等。

L 等級吸塵器只要曾暴露在高污染環境中，就必須仔細清潔其外殼以及機器所有部位，或者請您用密封材料仔細包好。待維修保養時，已髒污的部件若無法完全清潔乾淨，就必須全部丟棄。這些部件必須丟置在按現行廢棄法規規定該物必須使用的防滲透袋內。

- 您可以每隔一段時間以濕布清潔吸塵器外部。

清潔集塵箱

請您每隔一段時間使用一般市售無研磨作用的清潔劑將集污箱 (1) 擦拭乾淨，然後晾乾。

清潔 / 更換平摺式濾網 (請參考圖 N-O)

- ▶ 打開過濾器蓋時，請握住鎖定片並確保打開的過濾器蓋鎖定在垂直位置。如果過濾器蓋掉落，則有受傷的危險。

吸塵器的吸力取決於濾網的狀態。因此請定期清潔濾網。

請立即更換受損的平摺式濾網 (31)。

- 拉動鎖定片 (24)，並將濾器蓋 (40) 向上翻，直至其卡入垂直位置上。
- 握住平摺式濾網 (31) 的橫框並將其向上取出。
- 從集污箱 (1) 邊緣用濕布清除取下平摺式濾網 (31) 時產生的灰塵和污垢。

- 可於流水下沖洗平摺式濾網。
- 安裝一個新的或已清潔的平摺式濾網 (31)，請確保其穩固且正確安裝。
- 請將濾器蓋 (40) 鎖上，直到聽見卡上的聲音。

清潔粗濾器 (請參考圖 P)

- ▶ 此粗濾器不能用任何液體清潔。
- ▶ 請勿從上方伸手至推拉桿和吸塵器之間以解鎖粗濾器蓋。否則您的手可能會被夾住。

請將推拉桿 (39) 向上拉，直到可以從後方觸及粗濾器蓋。

請按下粗濾器蓋 (25) 的解鎖按鈕 (26)，然後將其從粗濾器格取出。

請取出粗濾器 (41)。

用柔軟的刷子輕刷粗濾器的濾網層。

請將粗濾器放入粗濾器蓋 (25)。

請將粗濾器蓋 (25) 放回粗濾器格，然後合上。

清潔液位感測器 (請參考圖 Q-R)

請從插座拔下吸塵器的電源插頭。

請取下吸塵器上部 (12)。

清空集污箱 (1)。

移動或輕拍浮球 (43)，以清除污垢。

請使用柔軟的布清潔浮球 (43)。

必要時您也可以取出浮球。為此，請按下鎖止裝置 (44) 並將浮球 (43) 取出。

請使用刷子清潔磁鐵 (45)。

重新裝入浮球 (43)。

收納與搬運

- 將電源線纏繞在電線托架 (19) 上。
- 將配件放入專用固定裝置中。
- 將安裝好的吸塵軟管 (27) 纏繞放置於吸塵軟管收納格中。請將兩條拉帶 (13) 向上拉並鉤入固定孔中。
- 請將 L-BOXX 扣上支座 (11)。
- 塑膠袋 / 不織布濾袋一旦裝滿便請將其取出。
- 請僅從提把 (10) 處提起吸塵器。
- 將吸塵器放置在表面平坦的乾燥空間內，並應防止他人未經許可使用。
- 踩下轉向滾輪制動器 (18) 即可固定住轉向滾輪 (17)。
- 為能更加輕鬆地搬運吸塵器並同時保護您的背部，請完全清空集污箱或丟棄裝滿的塑膠袋 / 不織布濾袋。
- 解鎖轉向滾輪制動器 (18)，以便推動或拉動吸塵器。
- 請僅將可拉出式推拉桿 (39) 用於推動或拉動吸塵器。不得使用推拉桿將吸塵器拖過樓梯平台。此時應使用提把。
- 在搬動吸塵器上樓梯時，請確保您身後沒有其他人員，以防止吸塵器意外掉落。

排除故障

- ▶ 發生故障時 (例如濾網破裂)，必須立刻將吸塵器關閉。必須將故障排除，然後才能重新運轉。

問題	補救措施
吸塵渦輪機未運轉。	全面檢查電源線、電源插頭、保險絲、插座和液位感測器 (42)。 總開關 (2) 處於「自動啟停機制」位置。 將總開關 (2) 移至「吸塵」符號，或啟動連接在插座 (4) 上的電動工具。
吸塵渦輪機關閉。	進行濕式吸塵時，LED 指示器 A 和 M 會同時緩慢閃爍。 清空集污箱 (1)。 進行乾式吸塵時，LED 指示器 A 和 M 會同時快速閃爍：吸塵器上插座的過載保護已啟用。 關閉電動工具。
吸塵器關機。	吸塵器由於超過吸塵器上插座的最大電壓而過載：馬達保護功能已觸發。 將吸塵器寄至授權的客戶服務中心 Bosch 。
吸塵渦輪機在集污箱清空後未重新運轉。	關閉吸塵器並等待 5 秒，5 秒後再重新啟動。 使用刷子清潔液位感測器 (42) 以及液位感測器 (42) 之間的空隙。
吸力降低。	清除吸頭、吸塵硬管、吸塵軟管 (27) 或平摺式濾網 (31) 上的阻塞物。 更換塑膠袋 (29) / 不織布濾袋(37)。 正確卡入濾器蓋 (40)。 正確套上吸塵器上部 (12) 並扣上鎖扣 (15)。 更換平摺式濾網 (31)。
吸塵時有粉塵逸出	請檢查平摺式濾網 (31) 是否安裝正確。 更換平摺式濾網 (31)。
自動斷開裝置 (濕式吸塵) 未跳開。	使用刷子清潔液位感測器 (42) 以及液位感測器 (42) 之間的空隙。 請定期檢查裝填狀態。
濾網自動清潔功能未運作。	透過按下濾網手動清潔按鈕 (7) 切換至手動模式。 若問題持續存在，請洽詢授權的 Bosch 客戶服務中心。
無法觸發濾網手動清潔功能。	吸塵器的過熱保護功能已啟用。 連續按濾網手動清潔按鈕 (7) 10 次會觸發過熱保護功能。此過熱保護功能在 20 秒後將會自動解除。 連續按濾網手動清潔按鈕 (7) 30 次會觸發過熱保護功能。此過熱保護功能在 4 分後將會自動解除。 若問題持續存在，請洽詢授權的 Bosch 客戶服務中心。
自動濾網清潔功能未觸發。	請聯繫授權的客戶服務中心 Bosch 。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。
當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣進口商

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段90 號6 樓
台北市10491
電話: (02) 7734 2588
傳真: (02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

廢棄物處理

必須以符合環保要求的方式處理廢棄的吸塵器、配件和包裝材料。

吸塵器不可以丟棄在一般的家庭垃圾中!



ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดูดฝุ่น



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

- ▶ **เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยเด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ มิฉะนั้นจะมีอันตรายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและได้รับบาดเจ็บ**
- ▶ **ควบคุมดูแลเด็กๆ** ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะไม่เล่นเครื่องดูดฝุ่น
- ▶ **โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับสารที่ติดการดูดฝุ่น**
- ▶ **อย่าดูดฝุ่นจากไม้ซีหรือไม้โอ๊ก ฝุ่นหิน หรือแร่ใยหินอย่างเด็ดขาด** วัสดุเหล่านี้ถือเป็นสารก่อมะเร็ง
- ⚠ **คำเตือน** **ใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อท่านได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น** วัสดุที่จะดูด และการกำจัดฝุ่นวัสดุอย่างปลอดภัยแล้วเท่านั้น การชี้แนะอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการบาดเจ็บ
- ⚠ **คำเตือน** **เครื่องดูดฝุ่นเหมาะสำหรับดูดวัสดุแห้ง และเมื่อเริ่มมาตรการที่เหมาะสม ก็จะสามารถดูดของเหลวได้เช่นกัน** หากของเหลวเข้าในมอเตอร์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดของเหลวที่ไวไฟหรือระเบิดได้ ตัวอย่าง เช่น เบนซิน น้ำมัน แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย** อย่ายูดฝุ่นที่ร้อน ลูกไหม หรือระเบิดได้ อย่านำเครื่องดูดฝุ่นทำงานในบริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ ฝุ่น ไอระเหย หรือของเหลวอาจกลายเป็นไฟหรือระเบิดได้
- ⚠ **คำเตือน** **ใช้เตาเสียบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น**
- ⚠ **คำเตือน** **ปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นในทันทีที่มีฟองหรือน้ำไหลออกมา และให้ถ่ายถังบรรจุ** มิฉะนั้นเครื่องดูดฝุ่นอาจชำรุดได้
- ▶ **โปรดระวัง!** ต้องเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ภายในอาคารเท่านั้น

- ▶ **โปรดระวัง!** ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ระดับของเหลวอย่างสม่ำเสมอและตรวจหาความเสียหาย มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้
- ▶ **หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ** การใช้อุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือจะลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **ตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่น สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้า** ทุกครั้งก่อนการใช้งาน อย่านำเครื่องดูดฝุ่นเมื่อตรวจพบความเสียหาย อย่านำเครื่องดูดฝุ่นด้วยตัวท่านเอง และส่งเครื่องเข้ารับการซ่อมแซมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น เครื่องดูดฝุ่น สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้าที่เสียหายจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **อย่าเคลื่อนทับหรือบีบอัดสายไฟฟ้า** อยาดึงที่สายไฟฟ้าเพื่อถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบหรือเพื่อเลื่อนเครื่องดูดฝุ่น สายไฟฟ้าที่ชำรุดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **ถอดปลั๊กไฟฟ้อออกจากเต้าเสียบก่อนบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดฮาร์ดแวร์เครื่องดูดฝุ่น** ทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ **จัดสถานที่ทำงานให้มีอากาศถ่ายเทที่ดี**
- ▶ **ส่งเครื่องดูดฝุ่นเข้ารับการซ่อมแซมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น** ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

- ⚠ **คำเตือน** **เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ** ใหญ่เชี่ยวชาญทำการถ่ายภาพ และบำรุงรักษา รวมทั้งกำจัดเก็บฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม อย่านำใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมและสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน
- ▶ **ก่อนเริ่มต้นทำงาน ให้ตรวจสอบว่าท่อดูดมีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่** สำหรับการตรวจสอบ ให้ปล่อยท่อดูดไวบนเครื่องดูดฝุ่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นพุ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจ มิฉะนั้นท่านอาจสูดดมฝุ่นเข้าไป
- ▶ **อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่นั่ง** เครื่องดูดฝุ่นอาจเสียหายได้
- ▶ **ใช้สายไฟฟ้าและท่อดูดอย่างระมัดระวัง** ท่านอาจทำห้บุคคลอื่นได้รับอันตราย
- ▶ **อย่าทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นโดยฉีดพ่นน้ำไปที่เครื่องโดยตรง** การฉีดพ่นของน้ำเข้าไปในส่วนของเครื่องดูดฝุ่น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **เชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ต่อสายดินอย่างถูกต้อง** เต้าเสียบและสายไฟต่อพ่วงต้องมีสายดินป้องกันที่พร้อมใช้งาน
- ▶ **ห้ามใช้เต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่นในกรณีที่คุณเปียกหรืออยู่ในสภาพที่มีความชื้น** การสัมผัสกับน้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูดได้

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของท่าน กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมาย การแปลความหมายสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง

จะช่วยให้ท่านสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัยและดียิ่งขึ้น

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



คำเตือน! อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง



เครื่องดูดฝุ่นของรุ่นประเภท L ตามมาตรฐาน IEC/EN 60335-2-69 สำหรับดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส > 1 mg/m³



คำเตือน! เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการถ่ายผง และบำรุงรักษา รวมทั้งกำจัดถังเก็บฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม อย่าใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีระบบกรองที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

คลิกล็อกกล่อง L-BOXX ได้สูงสุดเพียงกล่องเดียวเท่านั้น

น้ำหนักของกล่อง L-BOXX รวมถึงของदानในแล้วต้องไม่เกิน 15 กก.



อย่าแขวนเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับตะขอแขวน เช่น เพื่อการขนย้าย เครื่องดูดฝุ่นไม่เหมาะที่จะขนย้ายด้วยเครน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย



อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่นั่ง บันได หรือบันไดสแต็ป เครื่องดูดฝุ่นอาจพลิกคว่ำและชำรุดได้ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ



A

A
ไฟแสดงผล LED โหมดทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ

M

M

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

ไฟแสดงผล LED โหมดทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง



ปุ่มทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ



ปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง



Start/Stop อัตโนมัติ

การดูดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องดูดฝุ่นจะเปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติและปิดสวิตช์อีกครั้งพร้อมการหน่วงเวลา เตาเสียบที่เครื่องดูดฝุ่นจะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอด



ปิดใช้งาน

เตาเสียบที่เครื่องดูดฝุ่นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน



ดูดฝุ่น


ดูดฝุ่นที่ดกสะสมและฝุ่นจากระบบดูดฝุ่น เตาเสียบที่เครื่องดูดฝุ่นจะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอด



ค่าต่ำสุด/ค่าสูงสุด

ควบคุมกำลังในการดูดฝุ่นโดยไม่ต้องปรับตามระดับ:

- กำลังดูดสูงสุดสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวหนา
- กำลังดูดลดลงสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวน้อย และเพื่อควบคุมแรงการดูดฝุ่นระหว่างเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่และพื้นผิวของชิ้นงาน (เช่น เมื่อทำงานขัด)



การบันทึกข้อมูลถูกเปิดใช้งานในเครื่องดูดฝุ่นนี้



ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อเชื่อมที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ (เฉพาะประเทศ)

คำอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับเก็บ ดูด ล้าง และแยกฝุ่นแห้งไม่ไวไฟและของเหลวไม่ไวไฟ เครื่องดูดฝุ่นนี้ผ่านการทดสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับฝุ่น และสอดคล้องกับฝุ่นประเภท L เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เช่น ในงานช่างฝีมือ อุตสาหกรรม และโรงซ่อมสร้าง

ตามมาตรฐาน IEC/EN 60335-2-69 เครื่องดูดฝุ่นของฝุ่นประเภท L สามารถใช้เฉพาะสำหรับดูดออกและดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส > 1 mg/m³ เท่านั้น

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อท่านเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หรือเมื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ถังบรรจุ
- (2) สวิตช์หลัก
- (3) ส่วนเชื่อมต่อท่อ
- (4) เต้าเสียบสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
- (5) ไฟแสดงผล LED A โหมดทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ
- (6) ไฟแสดงผล LED M โหมดทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง
- (7) ปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง
- (8) ปุ่มทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ
- (9) ตัวควบคุมกำลังในการดูด
- (10) ต่ำมือถือ
- (11) ตัวยึด L-BOXX
- (12) ส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น
- (13) สายลากจูง
- (14) ช่องยึด
- (15) ตัวล็อกสำหรับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น
- (16) ล้อหลัง
- (17) ล้อเลื่อน
- (18) เบรกล้อเลื่อน
- (19) ที่ม้วนเก็บสายไฟฟ้า
- (20) รางเลื่อนปรับสำหรับโครงเลื่อนแบบยืดออกได้
- (21) บริเวณจับยึดด้านหลัง
- (22) หัวแปรงเอนกประสงค์
- (23) อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นเอนกประสงค์ (สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า)
- (24) สลักล็อกของฝาคอครอบชุดกรอง
- (25) ฝาคอครอบตัวกรองชั้นต้น
- (26) ปุ่มปลดล็อกตัวกรองชั้นต้น
- (27) ท่อดูด
- (28) หัวดูดปลายโค้ง
- (29) ถังพลาสติค
- (30) ช่องผ่านของอากาศ
- (31) ตัวกรองแบบจิบเรียบ

- (32) ปุ่มกดท่อดูด
- (33) อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า)
- (34) อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง)
- (35) ปุ่มปลดล็อกหัวแปรงเอนกประสงค์
- (36) ตัวยึดถุงกรองผ้าฝ้าย^{a)}
- (37) ถุงกรองผ้าฝ้าย^{a)}
- (38) ปุ่มกดโครงเลื่อน^{a)}
- (39) โครงเลื่อนแบบยืดออกได้^{a)}
- (40) ฝาคอครอบตัวกรองแบบจิบเรียบ
- (41) ตัวกรองชั้นต้น
- (42) เข็มเซอร์ปริมาณบรรจุ
- (43) ลูกลอย
- (44) ตัวล็อกลูกลอย
- (45) แม่เหล็ก

a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องดูดฝุ่นแท่ง/เบียด		GAS 400 A
หมายเลขสินค้า		3 601 JMO 0..
แรงดันไฟฟักัด	โวลท์	220-240
กำลังไฟฟักัด	วัตต์	1200
ความถี่	เฮิรตซ์	50-60
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด)	ลิตร	40
ปริมาตรสุทธิ (แห้ง)	ลิตร	28
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว)	ลิตร	20
แรงดูดสูงสุด ^{A)}		
- เครื่องดูดฝุ่น	hPa	220
- เทอร์โบ	hPa	240
อัตราการไหลสูงสุด ^{A)}		
- เครื่องดูดฝุ่น	ลิตร/ วินาที	31
- เทอร์โบ	ลูกบาศก์ กเมตร/ ชม.	111.6
- เทอร์โบ	ลิตร/ วินาที	80
- เทอร์โบ	ลูกบาศก์ กเมตร/ ชม.	288
ฝุ่นประเภท		L
น้ำหนัก ^{B)}	กก.	14.0

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง/เปียก GAS 400 A

ระดับการป้องกัน

⊕/I

ประเภทการป้องกัน

IPX4

A) วัสดุท่อดูด Ø 28 มม. และความยาว 4 ม.

B) น้ำหนักโดยรวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไมรวมปลั๊กไฟ
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
ใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
www.bosch-professional.com/wac

Start/Stop อัตโนมัติ

3 601 JMO ...	แรงดันไฟคัท	กำลังไฟฟ้า สูงสุด	กำลังไฟฟ้า ต่ำสุด
O80	220 โวลต์	2100 วัตต์	100 วัตต์
O20/OF0/ OK0/OEO	220– 240 โวลต์	2100 วัตต์	100 วัตต์
OLO	220– 240 โวลต์	1660 วัตต์	100 วัตต์
OHO/ONO	220– 240 โวลต์	1000 วัตต์	100 วัตต์

ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อเชื่อมที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่
เชื่อมต่อ

สำหรับรุ่นเฉพาะประเทศอื่นๆ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป กรุณา
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเตาเสียบของเครื่องดูดฝุ่น

การติดตั้ง

- **ถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบก่อนบำรุงรักษาหรือ
ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ทำการปรับตั้งใดๆ ที่เครื่อง
เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นภายใต้
มาตรการเพื่อความปลอดภัยจะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่น
ติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ**

การติดตั้งอุปกรณ์ดูด (ดูภาพประกอบ A)

ท่อดูด (27) มีระบบคลิปที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม
สำหรับดูดฝุ่น (อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (23), หัวดูด
ปลายโค้ง (28) และหัวแปรงอเนกประสงค์ (22))

การติดตั้งหัวดูดปลายโค้ง

- เสียบหัวดูดปลายโค้ง (28) เข้าบนท่อดูด (27) จนได้ยิน
เสียงปุ่มกดทั้งสอง (32) ของท่อดูดขบเข้าล็อก
- เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (32) เข้าด้านในและ
ดึงขึ้นส่วนออกจากกัน

การติดตั้งอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์

อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (23) ประกอบด้วยอะแดป
เตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า) (33) และอะแดป
เตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (34)

อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (23) สามารถใช้งานร่วมกับ
เครื่องมือไฟฟ้าของบอชได้

อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (34)

สามารถใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางด้านใน 38.5 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางด้าน
นอก 45 มม.

เสียบอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า) (33)
เข้ากับอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (34)
และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ทั้งสองตัวโดยการหมุนประกบใน
ด้านตรงข้ามกัน (ดูภาพประกอบ B)

เสียบอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (23) เข้ากับท่อ
ดูด (27) จนได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (32) ของท่อดูดขบเข้า
ล็อก

เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (32) เข้าด้านในและดึง
อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ออกจากท่อดูด

หากต้องการถอดแยกอะแดปเตอร์สองส่วน ให้คลายจุดเชื่อม
ต่อโดยการหมุนไปด้านตรงข้ามและดึงอะแดปเตอร์ออกจาก
กัน

การติดตั้งหัวแปรงอเนกประสงค์

เสียบหัวแปรงอเนกประสงค์ (22) เข้ากับท่อดูด (27) จน
ได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (32) ของท่อดูดขบเข้าล็อก

เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (32) เข้าด้านในและดึง
ชิ้นส่วนออกจากกัน

การปรับหัวแปรงอเนกประสงค์ (ดูภาพประกอบ C)

คุณสามารถใช้หัวแปรงอเนกประสงค์ (22) เป็นหัวดูดตาม
ซอกหรือเป็นแปรงได้

กดปุ่มปลดล็อก (35) แล้วเลื่อนแปรงไปทางด้านหน้า เพื่อใช้
หัวแปรงอเนกประสงค์ (22) ในรูปแบบแปรง

กดปุ่มปลดล็อก (35) แล้วเลื่อนแปรงไปทางด้านหลัง เพื่อใช้
หัวแปรงอเนกประสงค์ (22) ในรูปแบบหัวดูดตามซอก

การติดตั้งติดท่อดูด (ดูภาพประกอบ D)

จัดวางท่อดูด (27) เข้ากับส่วนเชื่อมต่อท่อ (3) และหมุนท่อ
ดูดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด

หมายเหตุ: ในขณะที่ดูดฝุ่นจะมีไฟฟ้าสถิตในท่อดูดและอุปกรณ์
ประกอบซึ่งเกิดจากการเสียดสีของฝุ่นละออง และผู้ใช้งาน
สามารถรู้สึกได้ในรูปแบบของการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต (ขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อมและการรับรูทางกายภาพ)
เมื่อดูดฝุ่นละเอียดและวัสดุแห้ง โดยปกติ บอช แนะนำให้ใช้
ท่อดูดป้องกันไฟฟ้าสถิต (อุปกรณ์ประกอบ)

การยึดท่อดูดเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (ดูภาพประกอบ E)

หมุนท่อดูด (27) ที่ติดตั้งแล้วเข้าไปในช่องสำหรับต่อท่อดูด
ดึงแถบยึด (13) ทั้งสองแถบขึ้นด้านบนแล้วเกี่ยวเข้าไปในช่อง
ยึด (14)

**การใส่/ถอดถุงพลาสติก (การดูดฝุ่นแห้ง) (ดูภาพ
ประกอบ F)**

เปิดตัวล็อกทั้งสองด้าน (15) แล้วถอดส่วนบนของเครื่องดูด
ฝุ่น (12) ออก

สำหรับการดูดฝุ่นแห้ง ให้ใส่ถุงพลาสติก (29) เข้ากับถัง
บรรจุ (1)

วางถุงพลาสติก (29) ลงในถังบรรจุ (1) โดยจับช่องเปิดรับ
ฝุ่นหันไปตามบน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงพลาสติก (29) ได้วางทางกับผนัง
ด้านในถังบรรจุ (1) ทั้งหมด

พับส่วนที่เหลือของถุงพลาสติก (29) ไว้เหนือขอบถังบรรจุ
(1) โดยตรวจดูให้แนวขอบถุงพลาสติกอยู่บนขอบของถัง
บรรจุ และช่องอากาศผ่าน (30) ยังคงอยู่ภายในถังบรรจุ

จัดวางส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) กลับเข้าที่และปิดล็อกเครื่องดูดฝุ่นโดยไขตัวล็อก (15)

► **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องดูดฝุ่นปิดล็อกแน่นแล้วเสมอ**
ปิดล็อกถุงพลาสติกก่อนที่จะนำออกมา จับตัวล็อกขึ้นพร้อมกัน แล้วไขแถบรัดเพื่อผูกปากถุง

การใส่/ถอดถุงกรองผ้าฝ้าย (การดูดฝุ่นแห้ง) (ดูภาพประกอบ G-H)

สำหรับการดูดฝุ่นบนพื้นแห้งเพื่อดูดวัสดุตามประเภทฝุ่น L คุณสามารถใช้ถุงกรองผ้าฝ้าย (37) (อุปกรณ์เสริม) ได้ ในการมีการดูดวัสดุที่มีหรือไม่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส $\geq 1 \text{ มก./ม}^3$ (ที่สอดคล้องกับฝุ่นประเภท L) คุณสามารถดูดวัสดุดังกล่าวลงในถังบรรจุได้โดยตรง

หมายเหตุ: โปรดปิดใช้งานการทำงานสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติเมื่อใช้ถุงกรองผ้าฝ้าย (ดู "การทำงานสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง (ดูภาพประกอบ M)", หน้า 75) ที่อยู่ด้านบนหรือด้านข้างสั้นๆ

คำเตือน เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการถ่ายฝัง และบำรุงรักษา รวมทั้งกำจัดถังเก็บฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม อย่าวางงานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ระบบกรองที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน

เปิดตัวล็อก (15) และถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ออก

สำหรับการใส่ ให้เสียบถุงกรองผ้าฝ้าย (37) เข้ากับตัวยึดถุงกรองผ้าฝ้าย (36) แล้วจัดวางถุงกรองผ้าฝ้าย (37) พร้อมด้วยตัวยึดถุงกรองผ้าฝ้าย (36) เข้าในถังบรรจุ (1)

สำหรับการถอด ให้ปิดช่องที่ถุงกรองผ้าฝ้ายที่บรรจุเต็มโดยการดึงตัวล็อกขึ้น ดึงถุงกรองผ้าฝ้าย (37) ที่ปิดล็อกแล้วออกจากตัวยึดถุงกรองผ้าฝ้าย (36) แล้วนำออกจากเครื่องดูดฝุ่น

จัดวางส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) กลับเข้าที่ แล้วปิดตัวล็อก (15) เพื่อเชื่อมต่อถังบรรจุ (1) เข้ากับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12)

การคลิกล็อกกล่อง L-Boxx (ดูภาพประกอบ I)

สำหรับการขนย้ายเครื่องดูดฝุ่นและการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นและ/หรือเครื่องมือไฟฟ้าแบบประหยัดพื้นที่ คุณสามารถใช้ระบบคลิกล็อกกล่อง L-Boxx เข้ากับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่นได้

ยึดท่อดูดเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (ดูภาพประกอบ E)

คลิกกล่อง L-Boxx ลงบนตัวยึด (11)

► **ห้ามดูดฝุ่นในขณะที่ฝักกล่อง L-Boxx คลิกเปิดอยู่**
เนื่องจากน้ำหนักศูนย์กลางของเครื่องดูดฝุ่นจะถ่ายขึ้นด้านบน เครื่องดูดฝุ่นอาจพลิกคว่ำได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย

► **ห้ามถือเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้มือจับของกล่อง L-Boxx ที่คลิกเปิดอยู่** เนื่องจากน้ำหนักของเครื่องดูดฝุ่นอาจมากเกินไปสำหรับมือจับของกล่อง L-Boxx ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย

การติดตั้งโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (อุปกรณ์เสริม) (ดูภาพประกอบ J-K)

หมายเหตุ: โครงเลื่อนแบบยึดออกได้จะไม่สามารถถอดประกอบออกมา ขณะติดตั้งให้ตรวจสอบว่าปรับโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างถูกต้อง ปรับแนวของโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (39) ก่อนการใช้งาน โดยดูจากเครื่องหมาย R (ขวา) และ L (ซ้าย) จัดวางโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (39) เข้าในรางเลื่อนปรับ (20)

กดโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (39) ลงด้านล่างจนสุดแนว ขอบจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ กดปุ่มกด (38) เพื่อปรับความยาวของโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (39)

การปฏิบัติงาน

► **ถอดปลั๊กไฟ** ออกจากเต้าเสียบก่อนบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- **ให้สลับแรงดันไฟฟ้า!** แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดของเครื่องดูดฝุ่น
- **อ่านกฎระเบียบ/กฎหมาย** เกี่ยวกับการจัดการกับฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่บังคับใช้ในประเทศของท่านอย่างละเอียด

เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับดูดและนำออกวัสดุดังต่อไปนี้:

– ฝุ่นที่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส $> 1 \text{ มก./ม}^3$ โดยหลักการแล้ว ต้องไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องคลายท่อดูด (27) ทั้งหมดออกจากส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) เสมอ

การปรับกำลังดูด

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมกำลังในการดูด (9) เพื่อควบคุมกำลังดูดแบบไม่ต้องปรับตามระดับ

ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (9) เพื่อให้กำลังดูดสูงสุดสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวหนา

ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (9) ไปยังตำแหน่งที่ให้กำลังดูดลดลงสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวน้อย และเพื่อควบคุมแรงการดูดฝุ่นระหว่างเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่และพื้นผิวของชิ้นงาน (เช่น เมื่อทำงานขัด)

เต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น

► **โปรดคำนึงถึงโหลดเชื่อมต่อสูงสุดที่อนุญาตของเต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น** การใช้โหลดเชื่อมต่อนเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตจะทำให้เครื่องดูดฝุ่นรับโหลดเกินกำลัง พิวสับป้องกันมอเตอร์จะถูกกระตุกให้ทำงาน โปรดส่งเครื่องดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการของ Bosch ที่ผ่านการรับรอง

หากปลั๊กไฟของเครื่องดูดฝุ่นยังเสียบอยู่ในเต้าเสียบและสวิตช์หลักอยู่ในตำแหน่ง 1 เต้าเสียบสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (4) จะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่าน จึงสามารถใช้เป็นแหล่งเชื่อมต่อกระแสไฟภายนอกที่เครื่องดูดฝุ่น เช่น ขณะทำงานโดยใช้ระบบดูดฝุ่น ในตำแหน่ง 1+ ระบบ Start/Stop อัตโนมัติของเครื่องดูดฝุ่นจะเปิดการทำงาน การเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นสามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

การดูดแห้ง

การดูดฝุ่นที่สะอาด



หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1



หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

การดูดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ L)

► เมื่อลมที่ปล่อยออกมาหมุนเวียนอยู่ในห้อง ในห้องจึงต้องใช้อัตรากาการระบายอากาศที่เพียงพอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของของประเทศ

ในเครื่องดูดฝุ่นมีเต้าเสียบสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (4) ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าจากภายนอกที่เต้าเสียบนี้ ไปรดค่านึงถึงโหนดเชื่อมต่อสูงสุดที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

โปรดติดตั้งอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นนอกประสงค์ (23) (ดูภาพประกอบ B)

เสียบอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นนอกประสงค์ (23) เข้าในซ็อกเก็ตดูดของเครื่องมือไฟฟ้า



สำหรับการเปิดใช้งานระบบ Start/Stop อัตโนมัติของเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1+

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้เปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ (4) เครื่องดูดฝุ่นจะสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อการดูดฝุ่นจะได้สิ้นสุดลง ฟังก์ชันหน่วงเวลาของระบบ Start/Stop อัตโนมัติจะทำงานต่อไปจนกระทั่งครบ 15 วินาที ทั้งนี้เพื่อดูดฝุ่นที่ตกค้างอยู่ออกจากท่อดูด



หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

การใช้งานระบบดูดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม)



เชื่อมต่อระบบดูดฝุ่นเข้ากับท่อดูด (27) สำหรับการดูดฝุ่นโดยใช้ระบบดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

ถือระบบดูดฝุ่นไว้ที่ผนัง แล้วเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ความดันสูญญากาศที่เกิดขึ้นจะทำให้ระบบดูดฝุ่นยึดติดโดยอัตโนมัติ

ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า แล้วนำระบบดูดฝุ่นออกจากผนังอย่างระมัดระวัง



หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

การดูดเปียก

► อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดของเหลวที่ไวไฟหรือระเบิดได้ ตัวอย่าง เช่น เบนซิน น้ำมัน แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย ยาดูดฝุ่นที่ร้อน ลูกโหม หรือระเบิดได้ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทำงานในบริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ ฝุ่น ไอระเหย หรือของเหลวอาจลุกเป็นไฟหรือระเบิดได้

► ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องมือมีน้ำเด็ดขาด เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับดูดลมผสมน้ำ

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสำหรับระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (ฝุ่นประเภท L) ได้รับการพิสูจน์เฉพาะสำหรับการดูดแห้งเท่านั้น

ก่อนการดูดเปียก

ถ้ายังบรรจุ (1) แล้วถอดถุงพลาสติก (29) หรือถุงกรองผ้าพลีซ (37)

ตรวจสอบเช็คสิ่งสกปรกในบริเวณเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) ระบบจะสามารถปิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัติเมื่อถึงบรรจุมีปริมาณเต็มได้ต่อเมื่อเซ็นเซอร์ไม่มีคราบสกปรก (ดู "การทำทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (ดูภาพประกอบ Q-R)", หน้า 76) ที่อยู่ด้านบนหรือด้านข้างล่างๆ

► ในขณะที่ดูดฝุ่นเปียก จำเป็นต้องปิดใช้งานการทำงานสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มทำความสะอาดสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ (8) เพื่อเปิดใช้งานการทำงานทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (ดู "ทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง", หน้า 75) การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานและไฟแสดงผล LED A (5) จะดับลง

การดูดของเหลว

คำเตือน

ปิดสวิตช์เครื่องดูด

ฝุ่นในพื้นที่ที่มีฟองหรือน้ำไหลออกมา

และให้ถ้ายังบรรจุ มีฉะนั้นเครื่องดูดฝุ่นอาจชำรุดได้ หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

เครื่องดูดฝุ่นมีเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) ติดตั้งอยู่ หากถึงระดับปริมาณสูงสุด เครื่องดูดฝุ่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงผล LED A (5) และ M (6) ทั้งสองตัวจะกะพริบพร้อมกัน 1 ครั้งต่อวินาที ระบบป้องกันการกลับมาเดินเครื่องจะเปิดการทำงาน และสามารถปิดใช้งานได้เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องดูดฝุ่น 1 ครั้ง

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบปริมาณบรรจุเป็นประจำและถ้ายังบรรจุตามเวลาที่กำหนด

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

จับถังบรรจุ (1) ในบริเวณจับยึดด้านหลัง (21) แล้วพลิกเพื่อเทของเหลวออกมาทางด้านหน้า

หลังจากดูดฝุ่นแบบเปียก

ทุกครั้งหลังจากการดูดฝุ่นเปียก ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) (ดู "การทำควมสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (ดูภาพประกอบ Q-R)", หน้า 76)

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราก่อตัวหลังการดูดเปียก:

- นำตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) ออกมา แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
- ถอดส่วนวนของเครื่องดูดฝุ่น (12) เปิดฝาครอบชุดกรอง (40) แล้วปล่อยให้ทั้งสองส่วนแห้งสนิท

การทำควมสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง (ดูภาพประกอบ M)

การทำควมสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติจะถูกกำหนดไว้ในแลตตามการตั้งคาตามมาตรฐานเมื่อเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ไฟแสดงผล LED A (5) จะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง

เมื่อใช้การทำควมสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ ตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) จะได้รับการทำความสะอาดทุก 15 วินาทีด้วยลมเป่า 2 ครั้ง (มีเสียงดังเป็นจังหวะ)

การใช้ระบบทำความสะอาดตัวกรองนี้เป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง

เพื่อให้สามารถใช้งานตัวกรองได้อย่างยาวนานที่สุด โปรดปิดใช้งานการทำควมสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติในกรณียกเว้นเท่านั้น เช่น การดูดฝุ่นแบบเปียก

การทำควมสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง

กดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ (8) เพื่อเปิดใช้งานการทำควมสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานและไฟแสดงผล LED A (5) จะดับลง

กดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) เพื่อเปิดใช้งานการทำควมสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง ตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) จะได้รับการทำความสะอาดด้วยลมเป่า 2 ครั้ง ไฟแสดงผล LED M (6) จะติดสว่างเป็นสีขาว 2 วินาที เมื่อไฟแสดงผล LED M (6) ดับลง คุณสามารถเปิดใช้ลมเป่า 2 ครั้งถัดไปได้ โดยกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) อีกครั้ง

หมายเหตุ: เมื่อใช้การทำควมสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง ควรเว้นระยะการทำควมสะอาดระหว่างกดปุ่มแต่ละครั้งเป็นเวลา 2-3 วินาที การกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) อย่างต่อเนื่องหลายครั้งอาจทำให้ระบบป้องกันความร่อนสูงเกินของเครื่องดูดฝุ่นถูกเปิดใช้งาน ระบบป้องกันความร่อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป (ดู "การแก้ไขความขัดข้อง", หน้า 76)

หากต้องการปิดใช้งานการทำควมสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง ให้กดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ (8)

ตัวกรองแบบจิบเรียบที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การใช้มือเคาะตัวกรองแบบจิบเรียบอย่างรวดเร็วเพื่อทำความสะอาดจึงไม่จำเป็น และอาจทำให้ตัวกรองเสียหายด้วยซ้ำ

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ **ถอดปลั๊กไฟ** ให้ออกจากเต้าเสียบก่อนบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ **รักษาเครื่องดูดฝุ่นและช่องระบายอากาศให้สะอาด** เพื่อจะไดทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- ▶ **สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น**

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

สำหรับการบำรุงรักษาโดยใช้ ต้องถอดเครื่องดูดฝุ่นออก ทำควมสะอาด และบำรุงรักษาเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานบำรุงรักษาหรือบุคคลอื่น ก่อนถอดควมทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ห้องที่ทำการถอดเครื่องดูดฝุ่นควรรายเทอากาศได้ดี สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายระหว่างบำรุงรักษา หลังการบำรุงรักษา ควรทำความสะอาดบริเวณที่ทำการบำรุงรักษาส่งเครื่องดูดฝุ่นในบริษัทผู้ผลิตหรือบุคคลที่ได้รับการแนะนำเพียงพอ ทำการตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับฝุ่นอย่างน้อยปีละครั้ง ต. ย. เช่น ตรวจสอบความเสียหายของตัวกรอง ความต้านรอยรั่วของเครื่องดูดฝุ่น และการทำงานของอุปกรณ์ควมควม

สำหรับเครื่องดูดฝุ่นประเภท L ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ระแอะเป็นอน ต้องทำความสะอาดภายนอกและทูลขึ้นส่วนของเครื่องหรือเคลื่อนควมควมควม เมื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนประกอบทั้งหมดที่ปนเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดจนเป็นที่น่าพอใจ จะต้องนำไปกำจัด ต้องนำชิ้นส่วนดังกล่าวไปกำจัดโดยใสในถุงพลาสติกซีมผ่านไม่ได้ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบเพื่อการกำจัดของเสียดังกล่าวที่บังคับใช้

- ทำควมสะอาดตัวเครื่องดูดฝุ่นเป็นครั้งคราวด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ

การทำควมสะอาดถังบรรจุ

เข้ถังบรรจุ (1) ให้สะอาดเป็นครั้งคราวด้วยสวาททำความสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่มีจำหน่ายทั่วไป และปล่อยให้แห้ง

การทำควมสะอาด/การเปลี่ยนตัวกรองแบบจิบเรียบ (ดูภาพประกอบ N-O)

- ▶ **ขณะเปิดฝาครอบชุดกรอง ให้จับที่ส่วนสลักล็อกของฝาครอบ และตรวจควมฝาครอบชุดกรองที่เปิดออกแล้วล็อกเข้าที่ในตำแหน่งตั้งตรง** ฝาครอบชุดกรองที่หล่นลงมาอาจก่อให้เกิดควมเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้

ประสิทธิภาพในดุดขึ้นอยู่กับสภาพของตัวกรอง คุณจึงควรทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ

- ▶ **เปลี่ยนตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) ที่ชำรุดโดยทันที**
- ดึงที่สลักล็อก (24) แล้วพลิกฝาครอบชุดกรอง (40) ขึ้นตามบนจนกระทั่งเขาล็อกในตำแหน่งตั้งตรง
- จับตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) ที่แถบ แล้วนำตัวกรองออกมาทางด้านบน

- กำจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ตกลงมาในขณะที่ถอดตัวกรองแบบจีบเรียบ (31) โดยใช้ผ้าเปียกเช็ดบริเวณขอบของถังบรรจุ (1)
- ตัวกรองแบบจีบเรียบสามารถล้างทำความสะอาดได้โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน
- ใส่ตัวกรองแบบจีบเรียบชุดใหม่หรือที่ทำความสะอาดแล้ว (31) เข้าไป แล้วตรวจสอบว่ายึดเขาที่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ปิดฝาครอบชุดกรอง (40) จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเขาที่

การทำความสะอาดตัวกรองชั้นต้น (ดูภาพประกอบ P)

- ▶ **ตัวกรองชั้นต้นไม่สามารถทำความสะอาดแบบเปียกได้**
- ▶ **ห้ามเอื้อมมือจากด้านบนเข้าไประหว่างโครงเลื่อนแบบยึดออกได้และเครื่องดูดฝุ่นเพื่อปลดล็อคฝาครอบชุดกรองชั้นต้น** มิฉะนั้นอาจทำให้มือของคุณเขาไปติดในบริเวณดังกล่าว

ดึงโครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (39) ขึ้นด้านบนจนกระทั่งฝาครอบชุดกรองชั้นต้นสามารถเขย่งได้อย่างอิสระจากด้านบน

กดปุ่มปลดล็อค (26) ของฝาครอบชุดกรองชั้นต้น (25) แล้วนำตัวกรองชั้นต้นออกจากช่องเก็บ

นำตัวกรองชั้นต้น (41) ออกมา

ปิดทำความสะอาดครีบบนตัวกรองชั้นต้นโดยใช้แปรงขนนุ่ม สอดตัวกรองชั้นต้นเข้าไปในฝาครอบชุดกรองชั้นต้น (25) ใส่ฝาครอบชุดกรองชั้นต้น (25) เข้าไปในช่องเก็บตัวกรองชั้นต้น แล้วพับเขาไป

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (ดูภาพประกอบ Q-R)

ดึงปลั๊กไฟของเครื่องดูดฝุ่นออกจากเต้าเสียบ

ถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12)

ถ่ายถังบรรจุ (1)

ขยับลูกลอย (43) หรือเคาะเบาๆ เพื่อจัดสิ่งสกปรกออก

ทำความสะอาดลูกลอย (43) โดยใช้ผ้านุ่ม

คุณยังสามารถถอดลูกลอยออกมาได้ตามต้องการ โดยกดที่ตัวล็อค (44) แล้วนำลูกลอย (43) ออกมาทำความสะอาดแม่เหล็ก (45) โดยใช้แปรงใส่ลูกลอย (43) กลับเข้าไปอีกครั้ง

การจัดเก็บและการขนย้าย

- มวนสายไฟฟารอบที่มวนเก็บสายไฟฟ้า (19)
- เสียบอุปกรณ์เสริมเขาไปในตัวยึดที่กำหนดให้ใส่อุปกรณ์นั้นๆ
- หมุนท่อดูด (27) ที่ติดตั้งแล้วเข้าไปในช่องสำหรับต่อท่อดูด ดึงแถบยึด (13) ทั้งสองแถบขึ้นด้านบนแล้วเกี่ยวเขาในช่องยึด
- คลีกกล่อง L-BOXX ลงบนตัวยึด (11)
- นำถุงพลาสติก/ถุงกรองผ้าฟลิสออกมาทันทีที่บรรจุเต็ม
- ถือหรือหิ้วเครื่องดูดฝุ่นโดยจับตรงตามถือ (10) เท่านั้น
- เก็บเครื่องดูดฝุ่นในช่องที่แห้งและมีพื้นเรียบ และป้องกันการนำออกมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ล็อคล้อเลื่อน (17) โดยเหยียบเบรกล้อเลื่อน (18) ลง
- เพื่อการขนย้ายเครื่องดูดฝุ่นโดยย้ายสะดวกและถนอมบริเวณหลัง ให้ถายถุงบรรจุให้เรียบรอยและกำจัดทิ้งถุงพลาสติก/ถุงกรองผ้าฟลิสที่บรรจุเต็ม
- ปลดล็อคเบรกล้อเลื่อน (18) เพื่อเลื่อนหรือลากเครื่องดูดฝุ่น
- ใช้โครงเลื่อนแบบยึดออกได้ (39) เท่านั้นในการเลื่อนหรือลากเครื่องดูดฝุ่น ห้ามลากเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้โครงเลื่อนแบบยึดออกบนพื้นที่เป็นขั้นบันได ในกรณีดังกล่าวให้ใช้ตามถือนั้นแทน
- ขณะถือเครื่องดูดฝุ่นขึ้นบันได ให้ตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลอื่นไดยูดานหลัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันในกรณีที่เครื่องดูดฝุ่นหล่นลงมาโดยไม่คาดคิด

การแก้ไขความขัดข้อง

- ▶ **หากเกิดความผิดปกติขึ้น (ต. ย. เช่น ตัวกรองเสียหาย) ต้องปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นทันที ต้องแก้ไขความผิดปกติ ก่อนเริ่มทำงานต่อไป**

ปัญหา	มาตรการแก้ไข
เทอร์โมสตูดไม่เริ่มทำงาน	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ พิวส์ เต้าเสียบ และเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) สวิทช์หลัก (2) อยู่ที่ "Start/Stop อัตโนมัติ" สับสวิทช์หลัก (2) ไปที่สัญลักษณ์ "ระบบดูดฝุ่น" หรือเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ (4)
กั๊กันดูดปิดสวิทช์	ขณะดูดฝุ่นเบี่ยง ไฟแสดงผล LED A และ M กะพริบซ้ำๆ พร้อมกัน ถ่ายถังบรรจุ (1) ขณะดูดฝุ่นแห่ง ไฟแสดงผล LED A และ M กะพริบเร็วพร้อมกัน: ระบบป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของเต้าเสียบเปิดการทำงาน ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องดูดฝุ่นปิดการทำงาน	เกิดการทำงานเกินพิกัดของเครื่องดูดฝุ่นจากแรงดันไฟฟ้าที่ถึงระดับสูงสุดของเต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น: พิวส์ป้องกันมอเตอร์ถูกกระตุ้นให้ทำงาน โปรดส่งเครื่องดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการของ Bosch ที่ผ่านการรับรอง
เทอร์โมสตูดไม่เริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากถ่ายถังบรรจุแล้ว	ปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นและรอ 5 วินาที หลังจาก 5 วินาทีให้เปิดสวิทช์อีกครั้ง ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) รวมทั้งพื้นที่ระหว่างเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) โดยใช้แปรง

ปัญหา	มาตรการแก้ไข
หลังตุลลดลง	นำเอาสิ่งอุดตันออกจากหัวตุล ท่อดูดแข็ง ท่อดูด (27) หรือตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) เปลี่ยนถุงพลาสติก (29)/ถุงกรองผ้าฟลีส (37) จัดวางฝาครอบชุดกรอง (40) ให้เข้าล็อกอย่างถูกต้อง สวมส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ให้ถูกต้องและปิดตัวล็อก (15) เปลี่ยนตัวกรองแบบจิบเรียบ (31)
ฝุ่นลุดออกมาขณะดูด	ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวกรองแบบจิบเรียบ (31) อย่างถูกต้อง เปลี่ยนตัวกรองแบบจิบเรียบ (31)
ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติ (การดูดเปียก) ไม่ตอบสนอง	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) รวมทั้งพื้นที่ระหว่างเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (42) โดยไขแปร่ง ตรวจสอบระดับเติมตลอดเวลา
ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติไม่ทำงาน	เปลี่ยนเข้าสู่อัตโนมัติแมนนวลโดยกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7). หากยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch
การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเองไม่เริ่มการทำงาน	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินของเครื่องดูดฝุ่นถูกเปิดใช้งาน การกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) อย่างต่อเนื่อง 10 ครั้งกระตุ้นให้ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินเปิดการทำงาน ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 20 วินาที การกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) อย่างต่อเนื่อง 30 ครั้งกระตุ้นให้ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินเปิดการทำงาน ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 4 นาที หากยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch
การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติไม่เริ่มการทำงาน	โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องอะไหล่ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com ที่งานที่ปรึกษาของ บอช ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผนป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: +66 2012 8888
แฟกซ์: +66 2064 5800
www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บอช
อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 7587555

โทรสาร 02 7587525

สามารถดูที่อยู่ศูนย์บริการอื่นๆ ได้ที่:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การกำจัดขยะ

เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ประกอบ และที่บ่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่นลงในขยะบ้าน!

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan untuk Alat Pengisap



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpan semua peringatan dan petunjuk kerja untuk keperluan di waktu yang akan datang.

► **Alat pengisap ini tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak dan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental atau sensorik, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan.**

Jika tidak, hal tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan pengoperasian dan menyebabkan cedera.

► **Awasi anak Anda.** Dengan demikian, Anda dapat memastikan anak-anak tidak bermain dengan alat pengisap.

► **Patuhi semua peraturan keselamatan untuk zat yang akan diisap.**

► **Jangan digunakan untuk mengisap serpihan kayu beech atau kayu oak, kerikil, atau asbes.** Bahan-bahan tersebut termasuk zat karsinogenik.

⚠ PERINGATAN Gunakan alat pengisap hanya jika Anda telah memiliki informasi yang cukup mengenai penggunaan alat pengisap, material yang diisap, dan pembuangan yang aman. Mengikuti instruksi dengan hati-hati dapat mengurangi kesalahan pengoperasian dan cedera.

⚠ PERINGATAN Alat pengisap cocok digunakan untuk membersihkan material yang kering dan juga untuk membersihkan cairan dengan tahapan yang sesuai. Masuknya cairan ke dalam alat dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

► **Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif. Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan**

yang dapat memicu ledakan. Debu, uap, atau cairan dapat terbakar atau meledak.

⚠ PERINGATAN Gunakan stopkontak hanya untuk tujuan yang telah ditentukan pada panduan pengoperasian.

⚠ PERINGATAN Segera matikan alat pengisap jika terdapat busa atau air yang keluar dan kosongkan wadahnya. Jika tidak, alat pengisap dapat rusak.

► **PERHATIAN!** Alat pengisap hanya boleh disimpan di dalam ruangan.

► **PERHATIAN!** Bersihkan sensor level cairan secara teratur dan periksa apakah terdapat kerusakan. Fungsi dapat terganggu jika terdapat kerusakan.

► **Jika penggunaan alat pengisap di tempat yang basah tidak dapat dihindarkan, gunakanlah pemutus sirkuit arus.** Penggunaan pemutus sirkuit arus mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

► **Periksa alat pengisap, kabel, dan plug setiap sebelum digunakan. Jangan menggunakan alat pengisap jika terdapat kerusakan. Jangan membuka alat pengisap sendiri dan serahkan hal tersebut pada petugas resmi dan lakukan perbaikan hanya menggunakan suku cadang asli.** Alat pengisap, kabel, dan steker yang rusak menambah risiko terjadinya kontak listrik.

► **Kabel jangan sampai tertarik. Jangan menarik kabel saat akan melepas plug dari stopkontak atau menggerakkan alat pengisap.** Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

► **Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesoris, atau meletakkan alat pengisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalan alat pengisap yang tidak diinginkan.

► **Upayakanlah agar ada pertukaran udara di tempat kerja.**

► **Serahkan perbaikan alat pengisap hanya pada petugas resmi dengan menggunakan suku cadang asli.** Dengan demikian, keselamatan kerja dengan alat pengisap selalu terjamin.

⚠ PERINGATAN Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Lakukan proses pengosongan, perawatan, pembersihan kontainer debu hanya oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem penyaring yang lengkap dan terpasang dengan cermat. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.

► **Periksa kondisi slang pengisap yang sesuai sebelum memulai pengoperasian awal. Selain itu, biarkan slang pengisap terpasang pada alat agar debu tidak keluar.** Jika tidak, bisa jadi Anda menghirup debu.

► **Jangan menggunakan alat pengisap sebagai tempat duduk.** Alat pengisap dapat rusak jika diduduki.

- ▶ **Gunakan kabel daya dan slang pengisap dengan hati-hati.** Anda dapat membahayakan orang lain dengan benda tersebut.
- ▶ **Jangan membersihkan alat pengisap di bawah air yang mengalir langsung.** Air yang masuk ke bagian atas alat pengisap dapat menimbulkan risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Sambungkan alat pengisap ke suplai daya yang di-grounding dengan benar.** Stopkontak dan kabel ekstensi harus memiliki konduktor pelindung yang berfungsi.
- ▶ **Jangan gunakan stopkontak pada alat pengisap saat melakukan pengisapan basah atau di lingkungan yang basah.** Sentuhan dengan air dapat menimbulkan risiko korsleting atau sengatan listrik.

Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat sangat membantu Anda selama penggunaan alat pengisap. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Penafsiran yang benar dari simbol-simbol ini dapat membantu Anda untuk menggunakan alat pengisap dengan aman dan lebih baik.

Simbol dan artinya



PERINGATAN! Bacalah semua instruksi dan petunjuk keselamatan. Kelalaian yang dikarenakan tidak mengikuti instruksi dan petunjuk keselamatan dengan benar dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.



Alat pengisap kategori debu L sesuai IEC/EN 60335-2-69 untuk **pengisapan kering** pada debu yang membahayakan kesehatan dengan nilai batas eksposur > 1 mg/m³



PERINGATAN! Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Hanya lakukan proses pengosongan dan perawatan, termasuk pembersihan kontainer debu oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem filter yang lengkap dan terpasang dengan benar. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.



Simbol dan artinya



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Hanya klik maksimal satu L-BOXX.


Berat L-BOXX beserta isinya tidak boleh melebihi 15 kg.



Jangan gantung alat pengisap pada pengait derek, misalnya untuk pengangkutan. Alat pengisap tidak dapat dikerek. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.



Jangan menggunakan alat pengisap sebagai tempat duduk, tangga, atau pijakan. Alat pengisap dapat terbalik dan menjadi rusak. Terdapat risiko cedera.



A

A

Indikator LED Mode pembersihan filter otomatis

M

M

Indikator LED Mode pembersihan filter manual



Tombol pembersihan filter otomatis



Tombol pembersihan filter manual



Start/stop otomatis

Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang sedang beroperasi; Alat pengisap akan hidup secara otomatis lalu mati kembali dengan jeda waktu. Stopkontak pada alat pengisap dialiri daya secara permanen.



Penonaktifan

Stopkontak pada alat pengisap tidak dialiri daya.



Pengisapan

Mengisap debu yang menumpuk dan debu dari sistem pengisapan. Stopkontak pada alat pengisap dialiri daya secara permanen.



Min/Maks

Pengaturan daya isap tanpa henti:

- Daya isap maksimum untuk penggunaan dengan jumlah debu yang banyak
- Mengurangi daya isap untuk penggunaan dengan jumlah debu yang sedikit dan untuk mengatur daya isap

Simbol dan artinya

antara perkakas listrik yang terhubung dan permukaan benda kerja (misalnya saat menggerinda)



Penyimpanan data diaktifkan di dalam alat pengisap ini.

max.
2100 W
min.
100 W

Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung (menyesuaikan negara masing-masing)

Spesifikasi produk dan performa

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada bagian depan panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Alat pengisap ini dirancang untuk mengumpulkan, mengisap, mengangkut, dan memisahkan debu kering dan cairan yang tidak mudah terbakar. Alat pengisap telah diperiksa dan sesuai dengan kelas debu L. Alat ini cocok untuk pengerjaan yang sangat menuntut pada penggunaan komersial, misalnya dalam bidang pertukangan, industri dan bengkel.

Alat pengisap kategori debu L berdasarkan IEC/EN 60335-2-69 hanya boleh digunakan untuk mengisap debu yang berbahaya bagi kesehatan dengan nilai batas eksposur > 1 mg/m³.

Gunakan alat pengisap hanya jika Anda benar-benar mengenal dan menguasai semua fungsinya serta dapat mengoperasikannya tanpa keterbatasan atau telah menerima petunjuk-petunjuk rinci tentang penggunaannya.

Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen sesuai dengan gambar alat pengisap pada halaman bergambar.

- (1) Kontainer
- (2) Switch utama
- (3) Dudukan slang
- (4) Stopkontak untuk perkakas listrik
- (5) Indikator LED **A** Mode pembersihan filter otomatis
- (6) Indikator LED **M** Mode pembersihan filter manual
- (7) Tombol pembersihan filter manual
- (8) Tombol pembersihan filter otomatis
- (9) Pengatur daya isap
- (10) Gagang angkat
- (11) Dudukan L-BOX
- (12) Bagian atas alat pengisap
- (13) Strap
- (14) Lubang pemasangan

- (15) Pengunci untuk bagian atas alat pengisap
- (16) Roda
- (17) Caster
- (18) Rem caster
- (19) Dudukan kabel
- (20) Rel pemandu untuk braket pemandu yang dapat diperpanjang
- (21) Area pegangan belakang
- (22) Nozel sikat kombinasi
- (23) Adaptor alat pengisap kombinasi (untuk perkakas listrik)
- (24) Katup pengunci penutup filter
- (25) Penutup filter awal
- (26) Tombol pembuka kunci filter awal
- (27) Slang isap
- (28) Nozel bengkok
- (29) Kantong plastik
- (30) Lubang saluran udara
- (31) Filter flat-fold
- (32) Tombol tekan Slang pengisap
- (33) Adaptor PowerTool (bagian depan)
- (34) Adaptor PowerTool (bagian belakang)
- (35) Tombol pembuka kunci Nozel sikat kombinasi
- (36) Dudukan kantung filter fleece^{a)}
- (37) Kantung filter fleece^{a)}
- (38) Tombol tekan Braket pemandu^{a)}
- (39) Braket pemandu yang dapat diperpanjang^{a)}
- (40) Penutup filter dari Filter flat-fold
- (41) Filter awal
- (42) Sensor level pengisian
- (43) Pengapung
- (44) Penguncian pengapung
- (45) Magnet

a) **Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.**

Data teknis

Alat pengisap basah/kering	GAS 400 A	
Nomor barang		3 601 JMO 0..
Tegangan nominal	V	220-240
Input daya nominal	W	1200
Frekuensi	Hz	50-60
Volume penampung debu (bruto)	l	40
Volume bersih (kering)	l	28
Volume bersih (cairan)	l	20

Alat pengisap basah/kering		GAS 400 A	
Tekanan negatif maks. ^{A)}			
- Alat pengisap	hPa	220	
- Turbin	hPa	240	
Laju alir maks. ^{A)}			
- Alat pengisap	l/s	31	
	m ³ /h	111,6	
- Turbin	l/s	80	
	m ³ /h	288	
Kategori debu			
L			
Berat ^{B)}			
		kg	14,0
Tingkat perlindungan			
⊕/I			
Jenis perlindungan			
IPX4			

A) dihitung dengan slang isap dengan diameter 28 mm dan panjang 4 m

B) Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

Start/stop otomatis

3 601 JMO ...	Tegangan nominal	Daya maksimal	Daya minimal
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/ OK0/OE0	220-240 V	2100 W	100 W
0L0	220-240 V	1660 W	100 W
0H0/ONO	220-240 V	1000 W	100 W

Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.

Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap debu.

Pemasangan

- ▶ **Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau meletakkan alat pengisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

Memasang aksesori alat pengisap (lihat gambar A)

Slang pengisap (27) dilengkapi dengan sistem klip yang dapat disambungkan dengan aksesori alat pengisap (adaptor pengisap kombinasi (23), nozel bengkok (28), nozel sikat kombinasi (22)).

Memasang nozel bengkok

- Pasang nozel bengkok (28) pada slang pengisap (27) hingga kedua tombol tekan (32) pada slang pengisap terdengar mengunci.

- Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (32) ke arah dalam, lalu lepaskan komponen.

Memasang adaptor alat pengisap kombinasi

Adaptor alat pengisap kombinasi (23) terdiri dari adaptor PowerTool (bagian depan) (33) dan adaptor PowerTool (bagian belakang) (34).

Adaptor alat pengisap kombinasi (23) kompatibel dengan perkakas listrik dari Bosch.

Adaptor PowerTool (bagian belakang) (34) dapat digunakan untuk perkakas listrik dari produsen lain melalui diameter bagian dalam mulai dari 38,5 mm dan diameter bagian luar mulai dari 45 mm.

Pasang adaptor PowerTool (bagian depan) (33) ke adaptor PowerTool (bagian belakang) (34) dan sambungkan kedua adaptor dengan cara memutarinya berlawanan arah (lihat gambar B).

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (23) ke slang pengisap (27) hingga kedua tombol tekan (32) pada slang pengisap terkunci dengan benar.

Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (32) ke arah dalam, lalu lepaskan adaptor alat pengisap kombinasi dari slang pengisap.

Untuk melepaskan kedua adaptor, kendurkan sambungan dengan memutarinya berlawanan arah dan lepaskan adaptor hingga terpisah.

Memasang nozel sikat kombinasi

Pasang nozel sikat kombinasi (22) ke slang pengisap (27) hingga kedua tombol tekan (32) pada slang pengisap terdengar mengunci.

Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (32) ke arah dalam, lalu lepaskan komponen.

Mengatur nozel sikat kombinasi (lihat gambar C)

Nozel sikat kombinasi (22) dapat digunakan sebagai nozel celah atau sikat.

Tekan tombol pembuka kunci (35) dan dorong sikat ke depan untuk menggunakan nozel sikat kombinasi (22) sebagai sikat.

Tekan tombol pembuka kunci (35) lalu tarik sikat ke belakang untuk menggunakan nozel sikat kombinasi (22) sebagai nozel celah.

Memasang slang isap (lihat gambar D)

Pasang slang pengisap (27) keudukan slang (3) dan putar searah jarum jam hingga maksimal.

Catatan: Saat melakukan pengisapan, gesekan debu di dalam slang isap dan aksesorinya akan menciptakan muatan elektrostatis yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam bentuk listrik statis (tergantung pada pengaruh lingkungan dan reaksi fisik).

Bosch merekomendasikan untuk menggunakan slang isap antistatik (aksesori) saat mengisap debu halus dan material kering.

Memasang slang pengisap ke alat pengisap (lihat gambar E)

Gulung slang pengisap yang telah dipasang (27) ke dalam kompartemen untuk slang pengisap. Tarik kedua strap (13) ke atas dan kaitkan ke dalam lubang pengikat (14).

Memasang/melepas kantong plastik (pengisapan debu kering) (lihat gambar F)

Buka kedua pengunci (15) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (12).

Untuk pengisapan debu kering, pasang kantong plastik (29) ke dalam kontainer (1).

Letakkan kantong plastik (29) dengan lubang pengisian menghadap ke atas di dalam kontainer (1).

Pastikan kantong plastik (29) telah benar-benar terpasang di sisi dalam kontainer (1).

Jepit sisa kantong plastik (29) pada tepi kontainer (1).

Pastikan garis penghenti kantong plastik berada di tepi kontainer dan lubang saluran udara (30) tetap berada di dalam kontainer.

Pasang kembali bagian atas alat pengisap (12) dan tutup alat pengisap dengan penguncinya (15).

► Pastikan alat pengisap selalu terkunci dengan benar.

Kunci kantong plastik **sebelum** melepaskannya. Pegang bagian atas kantong dan gunakan pita untuk mengikat kantong.

Memasang/melepaskan kantong filter fleece (pengisapan debu kering) (lihat gambar G-H)

Kantong filter fleece (37) (aksesori) dapat digunakan untuk pengisapan debu kering pada tekstil sesuai dengan kategori debu L.

Jika tekstil tanpa atau dengan nilai batas paparan $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (sesuai dengan kategori debu L) dilakukan pengisapan, tekstil tersebut dapat diisap langsung ke dalam kontainer.

Catatan: Saat menggunakan kantong filter fleece, matikan pembersihan filter otomatis (lihat „Pembersihan filter otomatis/manual (lihat gambar M)“, Halaman 84).

⚠ PERINGATAN Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Lakukan proses pengosongan, perawatan, pembersihan kontainer debu hanya oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem penyaring yang lengkap dan terpasang dengan cermat. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.

Buka pengunci (15) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (12).

Untuk memasukkan, letakkan kantong filter fleece (37) pada dudukan kantong filter fleece (36) dan letakkan kantong filter fleece (37) dengan dudukan kantong filter fleece (36) ke dalam kontainer (1).

Untuk melepaskan, kunci lubang kantong filter fleece yang terisi penuh dengan menarik kuncinya. Lepaskan kantong

filter fleece yang terkunci (37) dari dudukan kantong filter fleece (36) lalu lepaskan dari alat pengisap.

Pasang kembali bagian atas alat pengisap (12) dan sambungkan kontainer (1) ke bagian atas alat pengisap (12) dengan menutup pengunci (15).

Mengaitkan L-Boxx (lihat gambar I)

Untuk pengangkutan alat pengisap dan untuk penyimpanan aksesoris alat pengisap dan/atau perkakas listrik yang menghemat ruang, klik L-Boxx di bagian atas alat pengisap. Pasang slang pengisap ke alat pengisap (lihat gambar E). Kaitkan L-Boxx pada dudukannya (11).

► Jangan lakukan pengisapan dengan L-Boxx terpasang.

Titik berat alat pengisap akan berpindah ke atas. Alat pengisap dapat terbalik. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.

► Jangan mengangkat alat pengisap pada gagang angkat L-Boxx yang terpasang.

Gagang angkat L-Boxx tidak dapat menahan berat alat pengisap. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.

Memasang braket pemandu yang dapat diperpanjang (aksesori) (lihat gambar J-K)

Catatan: Braket pemandu yang dapat diperpanjang tidak dapat dilepas. Selama pemasangan, pastikan orientasi braket pemandu telah sesuai.

Sebelum pemasangan, arahkan braket pemandu (39) berdasarkan tanda **R** (kanan) dan **L** (kiri).

Pasang braket pemandu (39) pada rel pemandu (20).

Tekan braket pemandu (39) hingga garis berhenti berada di bawah, hingga braket pemandu terdengar mengunci.

Tekan tombol tekan (38), untuk mengubah panjang braket pemandu (39).

Penggunaan

► Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetulan, mengganti bagian aksesoris, atau meletakkan alat pengisap.

Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalan alat pengisap yang tidak diinginkan.

Cara penggunaan

► Perhatikan tegangan listrik!

Tegangan pada sumber listrik harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada label tipe alat pengisap.

► Carilah informasi tentang peraturan/hukum yang berlaku mengenai penanganan debu berbahaya di negara Anda.

Alat pengisap diperbolehkan untuk mengisap material berikut ini:

- Debu dengan nilai batas eksposisi $> 1 \text{ mg/m}^3$

Alat pengisap tidak boleh digunakan di ruangan yang rentan terjadi ledakan.

Untuk memastikan kinerja alat pengisap yang optimal, slang isap (27) harus selalu dipasang dengan benar pada bagian atas alat pengisap (12).

Mengatur daya isap

Daya isap dapat diatur tanpa henti menggunakan pengatur daya isap (9).

Atur pengatur daya isap (9) ke daya isap maksimum untuk penggunaan dengan jumlah debu yang banyak.

Atur pengatur daya isap (9) ke posisi untuk mengurangi daya isap untuk penggunaan dengan jumlah debu yang sedikit dan untuk mengatur daya isap antara perkakas listrik yang terhubung dan permukaan benda kerja (misalnya saat menggerinda).

Stopkontak pada alat pengisap

- ▶ **Perhatikan input daya stopkontak yang diperbolehkan pada alat pengisap. Input daya yang melebihi input daya maksimal yang diperbolehkan dapat menyebabkan alat pengisap kelebihan beban. Sekring pelindung motor diaktifkan.** Kirim alat pengisap ke pusat layanan pelanggan **Bosch** resmi.

Begitu steker alat pengisap dipasang ke dalam stopkontak dan switch utama berada pada posisi 1, stopkontak untuk perkakas listrik (4) dialiri daya. Stopkontak tersebut dapat digunakan sebagai sambungan daya eksternal pada alat pengisap, misalnya saat bekerja dengan sistem pengisap. Pada posisi 1+, fitur start/stop otomatis pada alat pengisap diaktifkan. Alat pengisap dapat dihidupkan dari jarak jauh menggunakan perkakas listrik yang terhubung.

Pengisapan kering

Pengisapan debu yang mengendap



Untuk **menghidupkan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi 1.



Untuk **mematikan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi 0.

Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang beroperasi (lihat gambar L)

- ▶ **Diperlukan pertukaran udara yang mencukupi di dalam ruangan ketika udara buang kembali ke ruangan. Harap patuhi peraturan nasional yang relevan.**

Stopkontak untuk perkakas listrik (4) terintegrasi ke alat pengisap. Perkakas listrik eksternal dapat disambungkan ke stopkontak tersebut. Perhatikan input daya maksimal yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (23) (lihat gambar B).

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (23) ke dalam soket pengisap pada perkakas listrik.



Untuk **mengaktifkan start/stop otomatis** pada alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi 1+.

Untuk **pengoperasian pertama alat pengisap**, hidupkan perkakas listrik yang tersambung ke stopkontak (4). Alat pengisap hidup secara otomatis.

Matikan perkakas listrik agar **proses pengisapan berhenti**. Fungsi penundaan shutdown pada start/stop otomatis berlangsung hingga 15 detik untuk mengisap sisa debu dari slang pengisapan.



Untuk **mematikan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi 0.

Penggunaan sistem pengisapan (aksesori)



Hubungkan sistem pengisapan ke slang pengisap (27).

Untuk **mengisap debu dengan sistem pengisapan**, putar switch utama (2) ke

posisi 1.

Letakkan sistem pengisapan pada dinding dan hidupkan perkakas listrik. Akibat tekanan negatif yang dihasilkan, sistem pengisapan menempel secara otomatis.

Matikan perkakas listrik dan lepaskan sistem pengisapan dari dinding dengan perlahan.



Untuk **mematikan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi 0.

Pengisapan basah

- ▶ **Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif. Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan yang dapat memicu ledakan.** Debu, uap, atau cairan dapat terbakar atau meledak.

- ▶ **Alat pengisap tidak boleh digunakan sebagai pompa air.** Alat pengisap dirancang untuk mengisap udara dan campuran air.

Petunjuk: Persyaratan pada kelas permeabilitas (kategori debu L) telah diverifikasi hanya untuk pengisapan kering.

Sebelum melakukan pengisapan basah

Kosongkan kontainer (1) dan lepaskan kantong plastik (29) atau kantong fleece (37).

Periksa sensor level pengisian (42) untuk mengetahui adanya kotoran. Alat pengisap hanya dapat mati secara otomatis saat kontainer sudah penuh jika sensor level pengisian dalam keadaan bersih (lihat „Membersihkan sensor level pengisian (lihat gambar Q-R)“, Halaman 85).

- ▶ **Pembersihan filter otomatis harus dinonaktifkan selama pengisapan debu basah.**

Tekan tombol pembersihan filter otomatis (8) untuk mengaktifkan pembersihan filter manual (lihat „Pembersihan

filter manual", Halaman 84). Pembersihan filter otomatis kemudian dinonaktifkan dan indikator LED **A (5)** padam.

Mengisap cairan

⚠ PERINGATAN Segera matikan alat pengisap jika terdapat busa atau air yang keluar dan kosongkan wadahnya. Jika tidak, alat pengisap dapat rusak.

Untuk **menghidupkan alat pengisap**, putar switch utama **(2)** ke posisi **1**.

Alat pengisap dilengkapi dengan sensor level pengisian **(42)**. Ketika level pengisian maksimal tercapai, alat pengisap akan mati secara otomatis dan kedua indikator LED **A (5)** dan **M (6)** akan berkedip secara bersamaan satu kali setiap detik. Perlindungan pengaktifan ulang akan diaktifkan dan dapat dinonaktifkan dengan menghidupkan/mematikan alat pengisap satu kali.

Catatan: Periksa level pengisian secara teratur dan kosongkan kontainer tepat waktu.

Untuk **mematikan alat pengisap**, putar switch utama **(2)** ke posisi **0**.

Letakkan kontainer **(1)** di area pegangan belakang **(21)** dan gerakkan ke depan untuk membersihkan cairan.

Setelah pengisapan basah

Bersihkan sensor level pengisian **(42)** (lihat „Membersihkan sensor level pengisian (lihat gambar **Q-R**)“, Halaman 85) setiap selesai melakukan pengisapan basah.

Untuk mencegah pembentukan jamur setelah pengisapan basah:

- Lepaskan filter flat-fold **(31)** dan biarkan hingga sepenuhnya kering.
- Lepaskan bagian atas alat pengisap **(12)**, buka penutup filter **(40)**, dan biarkan hingga sepenuhnya kering.

Pembersihan filter otomatis/manual (lihat gambar M)

Pembersihan filter otomatis

Catatan: Pembersihan filter otomatis diatur secara default saat alat pengisap dihidupkan.

Indikator LED **A (5)** menyala terus-menerus.

Selama pembersihan filter otomatis, filter flat-fold **(31)** dibersihkan setiap 15 detik dengan 2 tekanan udara (suara berdenyut).

Penggunaan pembersihan filter secara berkala dapat meningkatkan masa pakai filter.

Untuk mencapai masa pakai filter yang ideal, nonaktifkan pembersihan filter otomatis hanya situasi yang dikecualikan, misalnya saat pengisapan debu basah.

Pembersihan filter manual

Tekan tombol pembersihan filter otomatis **(8)** untuk mengaktifkan pembersihan filter manual. Pembersihan filter otomatis kemudian dinonaktifkan dan indikator LED **A (5)** padam.

Tekan tombol pembersihan filter manual **(7)** untuk melakukan pembersihan filter manual. Filter flat-fold **(31)**

dibersihkan dengan 2 tekanan udara. Indikator LED **M (6)** menyala putih selama 2 detik. Ketika indikator LED **M (6)** padam, tekanan udara berikutnya dapat diaktifkan. Untuk melakukannya, tekan kembali tombol pembersihan filter manual **(7)**.

Catatan: Saat membersihkan filter manual, pastikan bahwa interval waktu antara setiap penekanan tombol adalah selama 2–3 detik. Menekan tombol pembersihan filter manual **(7)** secara kontinu beberapa kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih pada alat pengisap. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah beberapa saat (lihat „Pemecahan masalah“, Halaman 85).

Untuk menonaktifkan pembersihan filter manual, tekan tombol pembersihan filter otomatis **(8)**.

Filter flat-fold yang permukaannya kotor masih dapat berfungsi dengan baik. Jangan memukul-mukulkan atau meniup filter flat-fold saat membersihkan secara manual karena dapat merusak filter.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- ▶ **Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetulan, mengganti bagian aksesoris, atau meletakkan alat pengisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.
- ▶ **Jaga kebersihan alat pengisap dan lubang ventilasi agar dapat digunakan dengan baik dan aman.**
- ▶ **Pakailah masker debu saat melakukan perawatan dan pembersihan alat pengisap.**

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

Jika pengguna bermaksud untuk melakukan perawatan pada alat pengisap, alat pengisap harus dibongkar, dibersihkan dan dirawat, jika memang dapat dilakukan tanpa menimbulkan bahaya bagi orang yang melakukan perawatan maupun orang lain. Sebelum membongkar alat pengisap, bersihkan alat pengisap terlebih dulu untuk mencegah timbulnya bahaya. Ruangan tempat alat pengisap dibongkar harus berventilasi baik. Selama melakukan perawatan, pakailah perlengkapan pelindung badan. Setelah perawatan selesai, bersihkan area perawatan.

Alat pengisap harus diperiksa oleh produsen atau orang yang ahli setidaknya sekali dalam setahun, misalnya terkait kerusakan filter, kerapatan alat pengisap dan fungsi perlengkapan kontrol.

Bagian luar atau seluruh komponen mesin sebaiknya dibersihkan atau ditutup misalnya dengan perekat saat mengisap dengan kategori **L** di lingkungan yang kotor. Buang semua komponen yang kotor yang tidak dapat dibersihkan dengan sempurna ketika melakukan perawatan atau reparasi. Komponen tersebut harus dibuang dalam

penampung debu nontransparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembuangan sampah tersebut.

- Bersihkan housing alat pengisap sesekali dengan kain yang lembap.

Membersihkan penampung debu

Seka kontainer **(1)** sesekali dengan bahan pembersih nonabrasif standar dan biarkan hingga kering.

Membersihkan/mengganti filter flat-fold (lihat gambar N-0)

- **Saat membuka penutup filter, pegang flap penutup dan pastikan penutup filter yang terbuka terkunci pada posisi vertikal.** Terdapat risiko cedera jika penutup filter terjatuh.

Daya isap bergantung pada kondisi filter. Oleh karena itu, bersihkan filter secara rutin.

Segera ganti filter flat-fold **(31)** yang rusak.

- Tarik katup pengunci **(24)** dan gerakkan penutup filter **(40)** ke atas hingga terkunci dalam posisi vertikal.
- Letakkan filter flat-fold **(31)** pada braketnya dan lepaskan ke atas.
- Bersihkan debu dan kotoran yang timbul saat melepas filter flat-fold **(31)** dengan kain lembap dari tepi kontainer **(1)**.
- Filter flat-fold dapat dibilas di bawah air mengalir.
- Pasang filter flat-fold **(31)** yang baru atau sudah dibersihkan, untuk itu, pastikan filter terpasang dengan benar dan aman.
- Tutup penutup filter **(40)**, hingga terdengar mengunci.

Membersihkan filter awal (lihat gambar P)

- **Filter awal tidak boleh dibersihkan dalam keadaan basah.**

- **Jangan sentuh area dari arah atas antara braket pemandu dan alat pengisap untuk membuka kunci penutup filter awal.** Dengan demikian, tangan Anda tidak akan terjepit.

Tarik braket pemandu **(39)** ke atas hingga penutup filter awal dapat diakses dengan mudah dari belakang.

Tekan tombol pembuka kunci **(26)** penutup filter awal **(25)** dan lepaskan dari kompartemen filter awal.

Lepaskan filter awal **(41)**.

Bersihkan bagian-bagian filter awal dengan sikat lembut.

Letakkan filter awal ke dalam penutup filter awal **(25)**.

Letakkan penutup filter awal **(25)** pada kompartemen filter awal, lalu lipat ke dalam.

Membersihkan sensor level pengisian (lihat gambar Q-R)

Lepaskan steker alat pengisap dari stopkontak.

Lepaskan bagian atas alat pengisap **(12)**.

Kosongkan kontainer **(1)**.

Gerakkan atau ketuk perlahan pengapung **(43)** untuk menghilangkan kotoran.

Bersihkan pengapung **(43)** dengan kain lembut.

Jika perlu, pengapung juga dapat dilepaskan. Untuk itu, tekan penguncian **(44)** dan lepaskan pengapung **(43)**.

Bersihkan magnet **(45)** dengan sikat.

Pasang kembali pengapung **(43)**.

Penyimpanan dan pengangkutan

- Gulung kabel listrik pada dudukan kabel **(19)**.
- Pasang aksesoris ke dalam dudukan yang disediakan.
- Gulung slang pengisap yang telah dipasang **(27)** ke dalam kompartemen untuk slang pengisap. Tarik kedua strap **(13)** ke atas dan kaitkan ke dalam lubang pengikat.
- Kaitkan L-BOXX pada dudukannya **(11)**.
- Segera lepaskan kantong plastik/kantong filter fleece ketika sudah penuh.
- Bawa alat pengisap dengan memegang gagang angkatnya **(10)**.
- Letakkan alat pengisap di tempat yang kering dengan permukaan rata dan lindungi dari penggunaan yang tidak sah.
- Untuk mengunci caster **(17)**, tekan rem caster **(18)** ke bawah.
- Untuk pengangkutan alat pengisap yang mudah dan tidak membuat lelah, kosongkan kontainer sepenuhnya atau buang seluruh isi kantong plastik/kantong filter fleece.
- Buka kunci rem caster **(18)** untuk mendorong atau menarik alat pengisap.
- Hanya gunakan braket pemandu yang dapat diperpanjang **(39)** untuk mendorong dan menarik alat pengisap. Alat pengisap tidak boleh ditarik melewati anak tangga menggunakan braket pemandu. Untuk melakukannya, hanya gunakan gagang angkat.
- Saat membawa alat pengisap di tangga, pastikan tidak ada orang lain tepat di belakang Anda seandainya alat pengisap terjatuh secara tidak terduga.

Pemecahan masalah

- **Jika terjadi gangguan (misalnya filter retak), alat pengisap harus segera dimatikan. Sebelum kembali memulai pengoperasian, gangguan harus diatasi.**

Masalah	Solusi
Turbin isap tidak beroperasi.	Periksa kabel, steker, sekring, stopkontak dan sensor level pengisian (42) . Switch utama (2) diatur ke "start/stop otomatis". Atur switch utama (2) ke simbol "Pengisapan" atau hidupkan perkakas listrik yang terhubung ke stopkontak (4) .
Turbin isap mati.	Selama pengisapan debu basah, indikator LED A dan M berkedip perlahan dan bersamaan.

Masalah	Solusi
	Kosongkan kontainer (1) . Selama pengisapan kering, indikator LED A dan M berkedip cepat dan bersamaan: Perlindungan beban berlebih pada stopkontak di alat pengisapan diaktifkan. Matikan perkakas listrik.
Alat pengisap mati.	Beban berlebih pada alat pengisap akibat tegangan maksimal pada stopkontak di alat pengisap terlampaui: Sekring pelindung motor terpicu. Kirim alat pengisap ke pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Turbis isap tidak beroperasi kembali setelah penampung debu dikosongkan.	Matikan alat pengisap dan tunggu selama 5 detik, hidupkan kembali setelah 5 detik. Bersihkan sensor level pengisian (42) dan ruang di antara sensor level pengisian (42) dengan sikat.
Daya isap menurun.	Bersihkan penyumbat dari nozel pengisap, pipa pengisap, slang pengisap (27) atau filter flat-fold (31) . Ganti kantong plastik (29) /kantong filter fleece (37) . Kunci penutup filter (40) dengan benar. Pasang bagian atas alat pengisap (12) dengan benar dan kunci pengunci (15) . Ganti filter flat-fold (31) .
Debu keluar saat pengisapan	Pastikan filter flat-fold (31) terpasang dengan benar. Ganti filter flat-fold (31) .
Penonaktifan otomatis (pengisapan basah) tidak berfungsi.	Bersihkan sensor level pengisian (42) dan ruang di antara sensor level pengisian (42) dengan sikat. Selalu periksa level pengisian.
Pembersihan filter otomatis tidak berfungsi.	Beralihlah ke mode manual dengan menekan tombol pembersihan filter manual (7) . Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Pembersihan filter manual tidak dapat dilakukan.	Perlindungan panas berlebih pada alat pengisap diaktifkan. Menekan tombol pembersihan filter manual (7) secara kontinu sebanyak 10 kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah 20 detik. Menekan tombol pembersihan filter manual (7) secara kontinu sebanyak 30 kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah 4 menit. Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Pembersihan filter otomatis tidak diaktifkan.	Hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch Indonesia
Arkadia Green Park Tower G – 7th floor
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.88
Jakarta 12520
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang

Alat pengisap, aksesoris, dan kemasan harus didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang alat pengisap bersama dengan sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn của máy hút bụi



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

- ▶ **Máy hút bụi này không thiết kế dành cho đối tượng sử dụng là trẻ em và người bị hạn chế về thể chất, khả năng giác quan kém hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và thiếu hiểu biết.** Nếu không sẽ có nguy cơ sai sót khi vận hành và gây thương tích.
 - ▶ **Hãy giám sát trẻ em.** Để đảm bảo rằng, trẻ em không chơi với máy hút bụi.
 - ▶ **Hãy tuân thủ tất cả quy định an toàn cho chất hút.**
 - ▶ **Không hút như bụi gỗ sồi hoặc bụi gỗ dẻ gai, bụi đá hoặc Amiang.** Những chất này được coi là chất gây ung thư.
- ⚠ CẢNH BÁO** Chỉ sử dụng máy hút bụi, khi bạn đã có đủ thông tin về việc sử dụng máy hút bụi, về chất được hút và về việc xử lý an toàn. Một bản hướng dẫn chi tiết sẽ giúp làm giảm sai sót khi vận hành và tránh bị thương tích.
- ⚠ CẢNH BÁO** Máy hút bụi chỉ thích hợp để hút các chất khô và cũng phù hợp để hút chất lỏng nhờ các biện pháp phù hợp. Chất lỏng thấm vào sẽ làm tăng nguy cơ giật điện.

- ▶ **Không hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ, ví dụ như xăng, dầu, cồn, dung môi. Không hút các bụi nóng, bụi dễ cháy nổ. Không vận hành máy hút bụi trong các không gian dễ nổ.** Rác, chất khí, chất lỏng loại có thể gây cháy hay nổ.

⚠ CẢNH BÁO Chỉ sử dụng ổ cắm cho các mục đích được quy định trong hướng dẫn vận hành.

⚠ CẢNH BÁO Tắt máy hút bụi ngay lập tức, ngay khi bọt và nước xuất

hiện và hãy xả rỗng bình chứa. Nếu không, máy hút bụi có thể bị hư hại.

- ▶ **LƯU Ý!** Máy hút bụi chỉ nên đặt trong nhà.
 - ▶ **LƯU Ý!** Bạn hãy làm sạch các cảm biến mức nạp đầy của các chất lỏng đều đặn và kiểm tra xem liệu các cảm biến đó có bị hư hại. Nếu không thì có thể làm suy giảm chức năng.
 - ▶ **Nếu việc sử dụng máy hút bụi ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.
 - ▶ **Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng máy hút bụi, dây cáp và phích cắm.** Không được sử dụng máy hút bụi nếu bạn phát hiện có hư hỏng. Không tự mở máy hút bụi và chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa. Làm hư hại máy hút bụi, cáp và phích cắm làm tăng nguy cơ điện giật.
 - ▶ **Không chạy qua hoặc đè bẹp cáp.** Không rút ở cáp, để rút đầu cắm ra khỏi ổ cắm hoặc di chuyển máy hút bụi. Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.
 - ▶ **Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bảo dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.
 - ▶ **Tạo cho nơi làm việc được thông thoáng tốt.**
 - ▶ **Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.** Điều này bảo đảm cho sự an toàn của máy hút bụi của bạn được giữ nguyên.
- ⚠ CẢNH BÁO** Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bảo dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng. Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cẩn thận. Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.
- ▶ **Trước khi vận hành, hãy kiểm tra tình trạng không lỗi của ống hút.** Khi đó, hãy cho lắp

ống hút ở máy hút bụi, để bụi không vô tình xuất hiện. Nếu không, bạn có thể hít phải bụi.

- ▶ **Không sử dụng máy hút bụi làm ghế ngồi.** Máy hút bụi có thể bị hư hỏng.
- ▶ **Sử dụng dây điện và ống hút cẩn thận.** Có thể gây nguy hại cho những người khác.
- ▶ **Không vệ sinh máy hút bụi bằng tia nước trực tiếp.** Nước vào nắp trên cùng của máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Kết nối máy hút bụi với một ổ cắm điện có nối đất thích hợp.** Ổ cắm điện và dây nối dài phải có chức năng nối đất bảo vệ.
- ▶ **Không kết nối ổ cắm tại máy hút bụi khi hút hầm hoặc trong môi trường ẩm.** Nguy cơ chập mạch hoặc điện giật có thể xảy ra do tiếp xúc với nước.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây hàm chứa ý nghĩa cho việc sử dụng máy hút bụi của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng máy hút bụi tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



CẢNH BÁO! Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.



Máy hút bụi loại bụi L theo IEC/EN 60335-2-69 về **hút khô** từ các loại bụi gây hại cho sức khỏe với giới hạn tiếp xúc là $> 1 \text{ mg/m}^3$



CẢNH BÁO! Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bảo dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng. Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cẩn thận. Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.



Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Chỉ gắn vào tối đa một L-BOXX.


Sức chứa của L-BOXX không được phép vượt quá 15 kg.



Không treo máy hút bụi trên móc cân cấu, ví dụ như khi vận chuyển. Máy hút bụi này không thích hợp cho vận chuyển bằng cân cấu. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.



Không sử dụng máy hút bụi làm ghế ngồi, thang hoặc đạp chân. Máy hút bụi có thể bị đổ và bị hư hại. Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.



A

A

LED hiển thị chế độ làm sạch bộ lọc tự động

M

M

LED hiển thị chế độ làm sạch bộ lọc thủ công



Nút Làm sạch bộ lọc tự động



Nút Làm sạch bộ lọc thủ công



Tự động khởi động-/ngừng

Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện; Máy hút bụi tự động khởi động và trì hoãn kết thúc. Ổ cắm tại máy hút bụi luôn có điện áp.



Tắt

Ổ cắm tại máy hút bụi không có điện.



Hút

Hút sạch các loại bụi bám lâu ngày và bụi từ hệ thống hút. Ổ cắm tại máy hút bụi luôn có điện áp.



Tối thiểu/tối đa

Điều chỉnh liên tục lực hút:

- công suất hút tối đa để sử dụng cho những đám bụi lớn
- công suất hút giảm để sử dụng cho những đám bụi nhỏ và để

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng

điều chỉnh lực hút giữa dụng cụ điện đã kết nối và bề mặt thổi gia công (ví dụ như khi mài)



Ghi dữ liệu được kích hoạt trong máy hút bụi này.

max.
2100 W
min.
100 W

Chỉ số công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối (tiêu chuẩn quốc gia)

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Xin lưu ý các hình minh hoạt trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Máy hút bụi này được dùng để thu gom, hút, hỗ trợ, loại bỏ các loại bụi khô và các chất lỏng không bắt lửa. Máy hút bụi được kiểm tra kỹ thuật và đáp ứng cho bụi loại L. Máy hút bụi này thích hợp với nhu cầu sử dụng công nghiệp ngày một tăng, ví dụ như dùng trong các nghề thủ công, công nghiệp và các công xưởng.

Máy hút bụi loại bụi L theo IEC/EN 60335-2-69 chỉ được phép dùng để hút và loại bỏ các loại bụi có hại cho sức khỏe với giới hạn tiếp xúc là $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Chỉ sử dụng máy hút bụi khi bạn đã hiểu rõ và có thể sử dụng mọi chức năng một cách thông suốt, hay được hướng dẫn sử dụng đúng cách.

Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các đặc điểm của sản phẩm để tham khảo hình minh họa của máy hút bụi trên trang hình ảnh.

- (1) Khoang chứa
- (2) Công tắc chính
- (3) Hốc cắm ống
- (4) Ổ cắm cho dụng cụ điện
- (5) LED hiển thị **A** chế độ làm sạch bộ lọc tự động
- (6) LED hiển thị **M** chế độ làm sạch bộ lọc thủ công
- (7) Nút Làm sạch bộ lọc thủ công
- (8) Nút Làm sạch bộ lọc tự động
- (9) Bộ điều chỉnh công suất hút
- (10) Tay Xách
- (11) Khung L-BOXX
- (12) Thân nắp máy hút

- (13) Dải rút
- (14) Lỗ gắn
- (15) Chốt cài máy hút
- (16) Bánh công tác
- (17) Bánh xe nhỏ
- (18) Hãm bánh xe nhỏ
- (19) Giá đỡ cáp
- (20) Ray dẫn hướng cho khung dẫn hướng có thể mở rộng
- (21) Vùng tay nắm phía sau
- (22) Vòi bàn chải kết hợp
- (23) Cút nối ống hút kết hợp (cho dụng cụ điện)
- (24) Lẫy đóng cửa nắp bộ lọc
- (25) Lớp phủ của bộ lọc sơ bộ
- (26) Nút mở khóa bộ lọc sơ bộ
- (27) Vòi ống hút
- (28) Vòi ống cong
- (29) Túi nhựa
- (30) Lỗ ống thông gió
- (31) Bộ lọc gấp nếp phẳng
- (32) Nút bấm vòi ống hút
- (33) Đầu nối PowerTool (phần trước)
- (34) Đầu nối PowerTool (phần sau)
- (35) Nút mở khóa vòi bàn chải kết hợp
- (36) Giá đỡ túi bộ lọc ni^{a)}
- (37) Túi bộ lọc ni^{a)}
- (38) Nút bấm khung dẫn hướng^{a)}
- (39) Khung dẫn hướng có thể mở rộng^{a)}
- (40) Nắp bộ lọc gấp nếp phẳng
- (41) Bộ lọc trước
- (42) Cảm biến mức nạp
- (43) Phao đo
- (44) Khóa phao đo
- (45) Nam châm

a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi khô/ướt	GAS 400 A	
Mã số máy		3 601 JMO 0..
Điện thế danh định	V	220-240
Công suất vào danh định	W	1200
Chu kỳ	Hz	50-60
Dung tích khoang chứa (tổng thể)	l	40
Thể tích thực (khô)	l	28

Máy hút bụi khô/lướt		GAS 400 A
Thể tích thực (chất lỏng)	l	20
Mức chân không tối đa ^{A)}		
– Máy hút bụi	hPa	220
– Tua bin	hPa	240
Lưu lượng tối đa ^{A)}		
– Máy hút bụi	l/s	31
	m ³ /h	111,6
– Tua bin	l/s	80
	m ³ /h	288
Mức bụi		L
Trọng lượng ^{B)}	kg	14,0
Cấp độ bảo vệ		⊕/I
Mức độ bảo vệ		IPX4

A) được đo với một cái ống hút Ø 28 mm và dài 4 m

B) Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.

Hệ thống khởi động/dừng tự động			
3 601 JMO ...	Điện thế danh định	Công suất tối đa	Công suất tối thiểu
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/ 0K0/0E0	220–240 V	2100 W	100 W
0L0	220–240 V	1660 W	100 W
0H0/0N0	220–240 V	1000 W	100 W

Chỉ số công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối. Đối với các model của từng quốc gia cụ thể, các giá trị này có thể sai lệch. Vui lòng chú ý các thông số trên ổ cắm của máy hút bụi.

Sự lắp vào

- **Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bảo dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

Lắp phụ kiện hút (xem Hình A)

Vòi ống hút (27) được trang bị Clip System, mà có thể được kết nối với phụ kiện hút (Cút nối ống hút kết hợp (23), vòi ống cong (28), vòi bàn chải kết hợp. (22)

Lắp vòi ống cong

- Cắm vòi ống cong (28) vào ống hút mềm (27) cho đến khi cả hai nút bấm (32) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.
- Để tháo ra, ấn các nút bấm (32) vào trong và kéo các bộ phận ra.

Lắp cút nối ống hút kết hợp

Cút nối ống hút kết hợp (23) gồm đầu nối PowerTool (phần trước) (33) và đầu nối PowerTool (phần sau) (34).

Cút nối ống hút kết hợp (23) tương thích với dụng cụ điện Bosch.

Đầu nối PowerTool (phần sau) (34) có thể được sử dụng bằng đường kính trong 38,5 mm và đường kính ngoài 45 mm cho dụng cụ điện của các nhà sản xuất khác.

Cắm đầu nối PowerTool (phần trước) (33) lên đầu nối PowerTool (phần sau) (34) và kết nối hai đầu nối bằng cách xoay ngược (xem hình B).

Cắm cút nối ống hút kết hợp (23) vào ống hút mềm (27) cho đến khi cả hai nút bấm (32) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.

Để tháo ra, ấn các nút bấm (32) vào trong và kéo cút nối ống hút kết hợp khỏi ống hút.

Để ngắt kết nối cả hai đầu nối, hãy nới lỏng kết nối bằng cách xoay ngược và kéo các đầu nối ra xa nhau.

Lắp vòi bàn chải kết hợp

Cắm vòi bàn chải kết hợp (22) vào ống hút mềm (27) cho đến khi cả hai nút bấm (32) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.

Để tháo ra, ấn các nút bấm (32) vào trong và kéo các bộ phận ra.

Điều chỉnh vòi bàn chải kết hợp (xem hình C)

Bạn sẽ có thể sử dụng vòi bàn chải kết hợp (22) làm vòi phun nối hoặc bàn chải.

Ấn vào nút mở khóa (35) và đẩy bàn chải về trước, để sử dụng vòi bàn chải kết hợp (22) làm bàn chải.

Ấn vào nút mở khóa (35) và kéo bàn chải về sau, để sử dụng vòi bàn chải kết hợp (22) làm vòi phun nối.

Lắp ống hút (xem hình D)

Đặt ống hút mềm (27) lên hốc cắm ống (3) và xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi dừng lại.

Hướng dẫn: Khi hút, xuất hiện hiện tượng tĩnh điện trong ống mềm và các phụ kiện do sự ma sát của bụi mà người sử dụng có thể cảm nhận được sự phóng tích điện (phụ thuộc vào tác động của môi trường và độ nhạy cảm của cơ thể).

Nói chung Bosch khuyên dùng một loại ống mềm (phụ kiện) chống tĩnh điện khi hút bụi mịn và các loại vật liệu khô.

Gắn ống hút trên máy hút bụi (xem hình E)

Quấn ống hút mềm đã lắp ráp (27) vào ngăn chứa ống hút mềm. Kéo cả hai dây kéo (13) lên trên và móc vào các lỗ gắn (14).

Đặt/ bỏ túi nhựa (Hút bụi khô) (xem hình F)

Mở cả hai khóa (15) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

Để hút bụi khô, đặt một chiếc túi nhựa (29) vào trong khoang chứa (1).

Cài túi nhựa (29) vào khoang chứa với miệng túi hướng lên trên (1).

Đặt chắc chắn để túi nhựa (29) nằm lọt dựa vào các thành trong thùng chứa (1).

Căng phần còn lại của túi (29) lên cạnh của thùng chứa (1). Đảm bảo rằng vạch dừng của túi nhựa nằm ở mép khoang chứa và các lỗ ống thông gió vẫn còn (30) trong khoang chứa.

Đặt nắp trên cùng của máy hút bụi (12) lại và đóng ống hút bằng các khóa (15).

► **Đảm bảo rằng máy hút bụi luôn đóng kín.**

Đóng kín túi nhựa, **trước khi** lấy ra. Giữ các túi ở phía trên với nhau và dùng ruy băng để buộc túi.

Lắp vào/tháo túi bộ lọc nỉ (Hút bụi khô) (xem hình G–H)

Để hút khô các chất theo mức bụi L bạn có thể lắp túi bộ lọc nỉ (37) (Phụ kiện) vào.

Nếu các chất không có hoặc có giá trị giới hạn phơi nhiễm $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (tương ứng với mức bụi L) đang được hút, chúng có thể được hút trực tiếp vào khoang chứa.

Lưu ý: Tất làm sạch bộ lọc tự động khi sử dụng túi bộ lọc nỉ (xem „Làm sạch bộ lọc tự động/thủ công (xem hình M)“, Trang 93).

⚠ CẢNH BÁO Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bảo dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng. Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cần thận. Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.

Mở các khóa (15) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

Để lắp, hãy cắm túi bộ lọc nỉ (37) lên giá đỡ túi bộ lọc nỉ (36) và đặt túi bộ lọc nỉ (37) với giá đỡ túi bộ lọc nỉ (36) vào khoang chứa (1).

Để tháo, hãy đóng lỗ hở của túi bộ lọc nỉ đầy bằng cách kéo nắp đây. Kéo túi bộ lọc nỉ đóng kín (37) ra khỏi giá đỡ túi bộ lọc nỉ (36) và lấy nó ra khỏi máy hút bụi.

Đặt nắp trên cùng của máy hút bụi (12) lại và bằng cách đóng nắp đây (15) hãy kết nối khoang chứa (1) với nắp trên cùng (12).

Gắn L-Boxx (xem hình I)

Để vận chuyển máy hút bụi và cất gọn các phụ kiện máy hút bụi và/hoặc dụng cụ điện, bạn có thể gắn L-Boxx ở nắp trên cùng của máy hút bụi.

Gắn ống hút trên máy hút bụi (xem hình E).

Gắn L-Boxx vào khung (11).

► **Không hút bằng L-Boxx được kẹp.** Trọng tâm của máy hút bụi dịch chuyển lên trên. Máy hút bụi có thể bị đổ. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.

► **Không mang máy hút bụi bằng tay cầm của L-Boxx khi nó được kẹp vào.** Máy hút bụi quá nặng so với tay cầm của L-Boxx. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.

Lắp khung dẫn hướng có thể mở rộng (Phụ kiện) (xem hình J–K)

Lưu ý: Không thể tháo rời khung dẫn hướng có thể mở rộng. Chú ý căn chỉnh chính xác khung dẫn hướng khi lắp ráp.

Căn chỉnh khung dẫn hướng (39) trước khi lắp dựa vào đánh dấu R (bên phải) và L (bên trái).

Lắp khung dẫn hướng (39) vào ray dẫn hướng (20).

Ẩn khung dẫn hướng xuống dưới (39) đến vạch dừng cho đến khi khung dẫn hướng có tiếng khộp vào.

Nhấn nút bấm (38), để thay đổi chiều dài của khung dẫn hướng (39).

Vận Hành

► **Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bảo dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

Bắt Đầu Vận Hành

► **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với số liệu ghi trên nhãn loại máy của máy hút bụi.

► **Bạn hãy thông tin về các qui định / luật hiện hành liên quan đến bụi gây hại đến sức khỏe tại đất nước của bạn.**

Máy hút bụi được dùng để hút và loại bỏ những chất sau đây:

– Các loại bụi có giới hạn tiếp xúc $> 1 \text{ mg/m}^3$

Thông thường, máy hút bụi có thể không nên sử dụng trong phòng, nơi có sẵn nguy cơ gây nổ.

Để đảm bảo công suất hút bụi tối ưu, bạn phải luôn duỗi thẳng ống hút mềm (27) hoàn toàn phía trước nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

Điều chỉnh lực hút

Bằng bộ điều chỉnh công suất hút (9) bạn có thể điều chỉnh liên tục lực hút.

Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (9) để sử dụng cho những đám bụi lớn về mức công suất hút tối đa.

Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (9) để sử dụng cho những đám bụi nhỏ và để điều chỉnh lực hút giữa dụng cụ điện đã kết nối và bề mặt phôi gia công (ví dụ như khi mài) về vị trí của công suất hút thấp.

Ổ cắm trên máy hút bụi

- **Hãy lưu ý công suất kết nối cho phép của ổ cắm trên máy hút bụi. Vượt quá công suất kết nối tối đa cho phép có thể dẫn đến máy hút bụi bị quá tải. Khóa bảo vệ động cơ được kích hoạt.** Hãy gửi máy hút bụi đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của **Bosch**.

Ngay khi phích cắm điện của máy hút bụi được cắm vào ổ cắm và công tắc chính ở vị trí 1, ổ cắm cho dụng cụ điện (4) có điện áp. Nó có thể được sử dụng làm đầu nối điện bên ngoài trên máy hút bụi, ví dụ khi làm việc với hệ thống hút. Trong vị trí 1+, hệ thống khởi động/dừng tự động của máy hút bụi được kích hoạt. Máy hút bụi có thể được bật từ xa bằng dụng cụ điện được kết nối.

Hút bụi khô

Hút sạch các loại bụi bám lâu ngày



Để **bật máy hút bụi**, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 1.



Để **tắt máy hút bụi**, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 0.

Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện (xem hình L)

- **Phải có sẵn hệ số thông gió đầy đủ trong phòng, khi khí phát thải trở lại phòng. Chú ý các quy định quốc gia tương ứng.**

Trong máy hút bụi, công tắc của dụng cụ điện (4) được tích hợp. Bạn có thể kết nối dụng cụ điện ngoài với ổ cắm này. Chú ý công suất kết nối tối đa hợp lệ của dụng cụ điện được kết nối.

Lắp cút nối ống hút kết hợp (23) (xem hình B).

Cắm cút nối ống hút kết hợp (23) vào miệng hút của dụng cụ điện.



Để **bật hệ thống khởi động/dừng tự động** của máy hút bụi, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 1+.

Bật dụng cụ điện đã kết nối với ổ cắm để chế độ **Đưa vào vận hành hoạt của máy hút bụi (4)**. Máy hút bụi bắt đầu tự động.

Tắt dụng cụ điện, để **kết thúc việc hút bụi**.

Chức năng chạy tiếp của chế độ tự động khởi động/dừng chạy cho đến 15 s để xả hết bụi bám còn lại ra khỏi ống mềm hút.



Để **tắt máy hút bụi**, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 0.

Sử dụng hệ thống hút (Phụ kiện)



Kết nối hệ thống hút với ống mềm hút (27).

Để **hút bụi bằng hệ thống hút** hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Giữ hệ thống hút ở tường và bật dụng cụ điện. Do áp suất âm xuất hiện, hệ thống hút sẽ tự bám chặt. Tắt dụng cụ điện và cẩn thận tháo hệ thống hút ra khỏi tường.



Để **tắt máy hút bụi**, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 0.

Hút Vật Ẩm Ướt

- **Không hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ, ví dụ như xăng, dầu, cồn, dung môi. Không hút các bụi nóng, bụi dễ cháy nổ. Không vận hành máy hút bụi trong các không gian dễ nổ.** Rác, chất khí, chất lỏng loại có thể gây cháy hay nổ.
- **Máy hút bụi không được phép dùng làm máy bơm nước.** Máy hút bụi được thiết kế để hút hỗn hợp khí và nước.

Hướng dẫn: Các yêu cầu về hệ số truyền (Loại bụi L) chỉ được áp dụng cho hút khô.

Trước khi hút ướt

Làm rỗng khoang chứa (1) và tháo túi nhựa (29) hoặc túi bộ lọc nỉ (37).

Kiểm tra độ bẩn của cảm biến mức nạp (42). Chỉ có cảm biến mức nạp sạch mới cho phép tắt tự động máy hút bụi khi khoang chứa đầy (xem „Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình Q-R)“, Trang 94).

- **Chức năng làm sạch bộ lọc tự động phải được hủy kích hoạt trong quá trình hút ướt.**

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (8), để kích hoạt làm sạch bộ lọc thủ công (xem „Làm sạch bộ lọc thủ công“, Trang 93). Làm sạch bộ lọc tự động do đó được hủy kích hoạt và hiển thị LED A (5) tắt.

Hút sạch các chất lỏng

⚠ CẢNH BÁO Tắt máy hút bụi ngay lập tức, ngay khi bọt và nước xuất hiện và hãy xả rỗng bình chứa. Nếu không, máy hút bụi có thể bị hư hại.

Để **bật máy hút bụi**, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Máy hút bụi được trang bị cảm biến mức nạp (42). Nếu đạt mức nạp tối đa, máy hút bụi tự động ngắt và cả hai hiển thị LED A (5) và M (6) nhấp nháy đồng thời 1 lần mỗi giây. Chống sự khởi động lại

được kích hoạt và có thể được hủy kích hoạt bằng cách bật/tắt máy hút bụi 1 lần.

Lưu ý: Kiểm tra mức nạp thường xuyên và xả sạch khoang chứa đúng lúc.

Để **tắt máy hút bụi**, hãy vận công tắc chính (2) vào vị trí 0.

Cắm vào khoang chứa (1) trong vùng tay nắm phía sau (21) và xoay nó về trước để xả cặn chất lỏng.

Sau khi hút ướt

Sau mỗi lần hút ướt hãy làm sạch cảm biến mức nạp (42) (xem „Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình Q–R)“, Trang 94).

Để tránh hiện tượng mốc sau khi hút bụi ướt:

- Lấy bộ lọc gấp nếp phẳng ra (31) và để nó khô hoàn toàn.
- Tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12), mở lớp phủ của bộ lọc (40) và để cả hai khô hoàn toàn.

Làm sạch bộ lọc tự động/thủ công (xem hình M)

Làm sạch bộ lọc tự động

Lưu ý: Làm sạch bộ lọc tự động được đặt theo tiêu chuẩn khi bật máy hút bụi.

Hiển thị LED **A (5)** sáng liên tục.

Khi làm sạch bộ lọc tự động, bộ lọc gấp nếp phẳng (31) được làm sạch 15 s một lần bằng 2 luồng không khí (tiếng ồn xung).

Khi thường xuyên sử dụng chức năng làm sạch bộ lọc, thời gian dừng của bộ lọc tăng thêm.

Để đạt thời gian dừng bộ lọc lý tưởng, chỉ bỏ kích hoạt làm sạch bộ lọc tự động trong một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ khi hút ẩm.

Làm sạch bộ lọc thủ công

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (8), để kích hoạt làm sạch bộ lọc thủ công. Làm sạch bộ lọc tự động do đó được hủy kích hoạt và hiển thị LED **A (5)** tắt.

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc thủ công (7), để tiến hành làm sạch bộ lọc thủ công. Bộ lọc gấp nếp phẳng (31) được làm sạch bằng 2 luồng không khí. Hiện thị LED **M (6)** sáng trắng trong 2 s. Nếu hiển thị LED **M (6)** tắt, có thể kích hoạt luồng không khí tiếp theo. Muốn vậy, hãy nhấn lại nút làm sạch bộ lọc thủ công (7).

Lưu ý: Khi làm sạch bộ lọc thủ công, hãy đảm bảo rằng khoảng thời gian giữa mỗi lần nhấn nút là 2–3 s. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (7) sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt của máy hút bụi. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau vài giây (xem „Loại bỏ trục trặc“, Trang 94). Để tắt làm sạch bộ lọc thủ công, hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (8).

Bộ lọc gấp nếp phẳng bị bẩn ở bề mặt vẫn hoạt động hiệu quả. Vệ sinh bộ lọc gấp nếp bằng tay

bằng cách đập hoặc thổi là không cần thiết và thậm chí còn làm hư hỏng bộ lọc.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

► **Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bảo dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

► **Để sự hoạt động an toàn và bình thường, luôn luôn giữ máy hút bụi và các khe thông gió được sạch.**

► **Mang khẩu trang khi bảo trì và làm sạch máy hút bụi.**

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng **Bosch**, hay một đại lý được **Bosch** ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Để bảo trì thay mặt cho người sử dụng, máy hút bụi phải được tháo rời ra, làm sạch và bảo trì ở mức có thể thực hiện được mà không gây ra nguy hiểm cho nhân viên bảo trì hay những người khác. Trước khi tháo rời máy, nên làm vệ sinh máy hút bụi để phòng tránh mọi nguy cơ. Phòng/khu vực kín nơi tháo rời máy hút bụi phải được thông gió tốt. Mang các trang thiết bị bảo hộ thích hợp trong lúc bảo trì. Sau khi bảo trì, phải làm sạch khu vực bảo trì.

Kiểm tra kỹ thuật hút bụi ít nhất mỗi năm một lần do nhà sản xuất hay người được chỉ định thực hiện, ví dụ kiểm tra sự hư hỏng của bộ lọc, tính chất kín chống sự rò rỉ của máy hút bụi và sự hoạt động của bộ phận điều khiển/kiểm tra.

Đối với các máy hút bụi loại **L**, bị bẩn xung quanh, cần làm sạch cả bên ngoài lẫn toàn bộ chi tiết của máy hoặc xử lý bằng chất bit kín. Khi tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa, cần xử lý toàn bộ các chi tiết bẩn, mà không thể vệ sinh sạch. Các chi tiết này phải được xử lý bằng các túi không thấm nước theo các quy định về xử lý chất thải.

– Thỉnh thoảng lau sạch vỏ của máy hút bụi bằng vải ẩm.

Vệ sinh khoang chứa

Thỉnh thoảng, lau sạch khoang chứa (1) bằng chất tẩy không mài mòn thông thường và để khô.

Làm sạch/thay bộ lọc gấp nếp phẳng (xem hình N–O)

► **Khi mở nắp bộ lọc, hãy nắm lấy mẫu khóa và đảm bảo rằng nắp bộ lọc đã mở khớp vào vị trí thẳng đứng.** Nếu nắp bộ lọc rơi xuống, nó sẽ gây nguy cơ thương tích.

Công suất hút phụ thuộc vào tình trạng bộ lọc. Do đó, bạn hãy làm sạch bộ lọc thường xuyên.

Thay bộ lọc gấp nếp phẳng bị hỏng (31) ngay lập tức.

- Kéo tại nắp đóng (24) và xoay lớp phủ của bộ lọc (40) lên trên cho đến khi nó khớp vào vị trí thẳng đứng.
- Cắm vào bộ lọc gấp nếp phẳng (31) tại các thanh mỏng và kéo ra hướng lên trên.
- Loại bỏ bụi bẩn xuất hiện khi tháo bộ lọc gấp nếp phẳng (31) khỏi mép khoang chứa (1) bằng vải ẩm.
- Bộ lọc gấp nếp phẳng có thể được rửa dưới nước chảy.
- Sử dụng bộ lọc gấp nếp mới hoặc sạch (31) và chú ý vị trí đặt an toàn và chính xác.
- Đóng nắp bộ lọc (40) cho đến khi nghe thấy tiếng khớp vào.

Làm sạch bộ sơ bộ (xem hình P)

► Không được làm sạch ướt bộ lọc sơ bộ.

► Không với tay từ phía trên vào giữa khung dẫn hướng và máy hút bụi để mở khóa nắp bộ lọc sơ bộ. Nếu không bạn có thể bị kẹt tay.

Kéo khung dẫn hướng (39) lên trên đến khi nắp bộ lọc sơ bộ có thể tiếp cận dễ dàng từ phía sau.

Nhấn nút mở khóa (26) của nắp bộ lọc sơ bộ (25) và lấy ra khỏi ngăn bộ lọc sơ bộ.

Hãy tháo bộ lọc sơ bộ (41) ra.

Hãy chải sạch các bản mỏng của bộ lọc sơ bộ bằng bàn chải mềm.

Hãy đặt bộ lọc sơ bộ vào nắp bộ lọc sơ bộ (25).

Hãy lắp nắp bộ lọc sơ bộ (25) vào ngăn bộ lọc sơ bộ và gấp vào.

Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình Q-R)

Rút phích cắm của máy hút bụi ra khỏi ổ cắm.

Tháo nắp trên của máy hút bụi (12).

Làm rỗng thùng chứa (1).

Di chuyển phao đo (43) hoặc gỗ nhẹ để loại bỏ bụi bẩn.

Làm sạch phao đo (43) bằng vải mềm.

Nếu cần, bạn cũng có thể tháo phao đo. Muốn vậy, hãy nhấn vào khóa (44) và lấy phao đo (43) ra.

Làm sạch nam châm (45) bằng bàn chải.

Lắp lại phao đo (43).

Cất Giữ và Vận Chuyển

- Xoắn dây điện vào giá đỡ cáp (19).
- Cắm phụ kiện vào các giá đỡ tương ứng.
- Quấn ống hút mềm đã lắp ráp (27) vào ngăn chứa ống hút mềm. Kéo cả hai dây kéo (13) lên trên và móc vào các lỗ gắn.
- Gắn L-BOXX vào khung (11).
- Tháo túi nhựa/túi bộ lọc ni ngay khi nó đầy.
- Mang máy hút bụi chỉ bằng tay cầm máy (10).
- Đặt máy hút bụi ở nơi khô ráo với nền phẳng và tránh xa phạm vi của người không được cho phép sử dụng.
- Đá xuống hãm bánh xe nhỏ để khóa bánh xe nhỏ (17) (18).
- Để giúp bạn vận chuyển máy hút bụi dễ dàng và bảo vệ lưng, hãy xả sạch khoang chứa hoặc vứt bỏ túi nhựa/túi bộ lọc ni đầy.
- Mở khóa hãm bánh xe nhỏ (18) để đẩy hoặc kéo máy hút bụi.
- Chỉ sử dụng khung dẫn hướng đã mở rộng (39) để đẩy hoặc kéo máy hút bụi. Không được kéo máy hút bụi qua cầu thang bằng khung dẫn hướng. Muốn vậy, cần sử dụng tay xách.
- Khi mang máy hút bụi lên cầu thang, hãy đảm bảo không có người nào khác ở ngay phía sau bạn để phòng trường hợp máy hút bụi bị rơi bất ngờ.

Loại bỏ trực trực

- Nếu xảy ra sự cố (ví dụ như vỡ bộ lọc), máy hút bụi phải được tắt ngay lập tức. Trước khi khởi động lại, phải loại bỏ lỗi.

Vấn đề	Biện Pháp Sửa Chữa
Tuabin hút chưa khởi động.	Kiểm tra cáp nối điện nguồn, phích cắm điện nguồn, cầu chì, ổ cắm và cảm biến mức nạp (42). Công tắc chính (2) ở vị trí „Hệ thống khởi động/dừng tự động“. Đặt công tắc chính (2) thành biểu tượng "Hút" hoặc cắm dụng cụ điện đã kết nối vào ổ cắm (4).
Tuabin hút tắt.	Khi hút ướt, các hiển thị LED A và M nhấp nháy chậm và đồng thời. Làm rỗng thùng chứa (1). Khi hút khô, các hiển thị LED A và M nhấp nháy nhanh và đồng thời: Chống quá tải ổ cắm tại máy hút bụi được kích hoạt. Tắt dụng cụ điện.
Máy hút bụi tắt.	Máy hút bụi quá tải do vượt quá điện áp tối đa của ổ cắm trên máy hút bụi: Cầu chì bảo vệ động cơ được kích hoạt. Hãy gửi máy hút bụi đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch .

Vấn đề	Biện Pháp Sửa Chữa
Tuabin hút chưa khởi động lại sau khi làm rỗng thùng chứa.	Tắt máy hút bụi và chờ 5 s, sau 5 s hãy bật lại. Làm sạch cảm biến mức nạp (42) cũng như khoảng trống của cảm biến mức nạp (42) bằng bàn chải.
Giảm lực hút.	Loại bỏ các chất tắc nghẽn từ vòi hút, ống hút cứng, ống hút mềm (27) hoặc bộ lọc gấp nếp phẳng (31). Thay túi nhựa (29)/túi bộ lọc ni (37). Gài chính xác nắp bộ lọc (40). Đậy khít nắp trên cùng của máy hút bụi (12) và đóng các khóa (15). Thay thế bộ lọc gấp nếp (31).
Phát thải bụi khi hút bụi	Kiểm tra việc lắp đặt bộ lọc gấp nếp phẳng (31) chính xác. Thay thế bộ lọc gấp nếp (31).
Chế độ tự động tắt (Hút bụi ẩm) không phản hồi.	Làm sạch cảm biến mức nạp (42) cũng như khoảng trống của cảm biến mức nạp (42) bằng bàn chải. Kiểm tra mức nạp đầy ngay lập tức.
Chế độ vệ sinh bộ lọc tự động không làm việc.	Chuyển sang chế độ thủ công bằng cách nhấn nút làm sạch bộ lọc thủ công (7). Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch .
Làm sạch bộ lọc thủ công không được kích hoạt.	Chống quá nhiệt máy hút bụi được kích hoạt. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (7) 10 lần sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau 20 s. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (7) 30 lần sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau 4 phút. Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch .
Làm sạch bộ lọc tự động không được kích hoạt.	Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch .

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI

TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ

Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Sự thải bỏ

Máy hút bụi, phụ kiện, bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được vứt bỏ máy hút bụi vào chung với rác sinh hoạt thông thường!



⚠ تحذير
أوقف الشافطة على الفور
في حالة خروج رغوة أو ماء،
وقم بتفريغ الوعاء. وإلا فقد تتعرض الشافطة
للضرر.

⬅ انتبه! لا يجوز تخزين الشافطة في الأماكن
المغلقة فقط.

⬅ انتبه! قم بتنظيف مستشعرات مستوى ملء
السوائل بشكل منتظم، وتأكد من عدم وجود
أضرار بها. وإلا فقد يتأثر الأداء الوظيفي سلبياً.

⬅ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل الشافطة
في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح الوقاية
من التيار المتخلف. يقلل استخدام مفتاح الوقاية
من التيار المتخلف من خطر التعرض للصدمة
الكهربائية.

⬅ احرص قبل كل استخدام على إجراء فحص
للشافطة والكابل والقباس. لا تستخدم
الشافطة في حالة وجود أضرار بها. لا تفتح
الشافطة بنفسك، ولا تقم بإصلاحها إلا لدى
فنيين متخصصين مؤهلين، واستخدم قطع
الغيار الأصلية فقط. يزداد خطر التعرض للصدمة
الكهربائية في حالة وجود أضرار بالشافطة أو
الكابل أو القابس.

⬅ لا تقم بدس الكابل أو تعرضه للانحصار. لا
تسحب الكابل بغرض فصل القابس من
المقبس أو تحريك الشافطة. تزيد الكابلات
الكهربائية التالفة من خطر التعرض للصدمة
كهربائية.

⬅ احرص القابس عن المقبس قبل صيانة
الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط
الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة
جانباً. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع
التشغيل غير المقصود للشافطة.

⬅ قم بتوفير تهوية مناسبة في مكان العمل.

⬅ احرص على إصلاح الشافطة لدى فنيين
متخصصين مؤهلين فقط، واستخدم قطع
الغيار الأصلية، حيث يضمن هذا الحفاظ على
سلامة الشافطة.

⚠ تحذير
تحتوي الشافطة على غبار
يمثل خطورة على الصحة.

⬅ احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما
في ذلك خلع وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال
متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية
المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام
الفلتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا
فسيكون هناك خطر على صحتك.

⬅ تأكد قبل التشغيل أن خرطوم الشفط في
حالة سليمة. عند القيام بذلك، اترك خرطوم
الشفط مركب على الشافطة، حتى لا يخرج
الغبار دون قصد. وإلا فقد يتسبب ذلك في
استنشاقك للغبار.

⬅ لا تستخدم الشافطة كمقعد للجلوس. قد
يؤدي ذلك إلى تلف الشافطة.

⬅ استخدم كابل الشبكة الكهربائية وخرطوم
الشفط بحرص. فقد يتسبب في تعرض الآخرين
للخطر.

⬅ لا تقم بتنظيف الشافطة باستخدام تيار ماء
موجه بشكل مباشر. يزداد خطر التعرض

عربي

إرشادات الأمان الخاصة بالشافطة



اقرأ جميع إرشادات الأمان
والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند
تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد
يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية، و
إلى نشوب المرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.
احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات
للمستقبل.

⬅ هذه الشافطة غير مناسبة
للاستعمال من قِبَل الأطفال
والأشخاص الذين يعانون من
نقص في القدرات البدنية أو
الحسية أو العقلية أو الذين
ليست لديهم الدراية
والمعرفة. وإلا فقد ينشأ خطر
من الاستخدام الخاطئ أو وقوع
إصابات.

⬅ قم بمراقبة الأطفال. لضمان
عدم عبث الأطفال بالشافطة.

⬅ احرص على مراعاة كافة لوائح الأمان الخاصة
بالمواد المراد شفطها.

⬅ لا تقم أبداً بشفط غبار خشب الزان أو خشب
البوط أو غبار الحجارة أو الأسبستوس. حيث
تعتبر هذه المواد من مسببات السرطان.

⚠ تحذير
لا تستخدم الشافطة إلا عند
توافر معلومات كافية عن

طريقة استخدامها والمواد التي يمكن شفطها
وعن التخلص من هذه المواد بشكل آمن. اتباع
الإرشادات بعناية يحد من وقوع أخطاء تشغيل أو
إصابات.

⚠ تحذير
الشافطة مناسبة لشفط
المواد الجافة، ويمكن، عبر
اتخاذ الإجراءات المناسبة، استخدامها أيضاً في
شفط السوائل. يزداد خطر التعرض للصدمة كهربائية
في حالة تسرب السوائل.


⬅ لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل
القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين،
الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط
غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم
بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر
الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغبار،
والأبخرة والسوائل.

⚠ تحذير
استخدم المقبس فقط
للأغراض المحددة في دليل

التشغيل.

الرموز ومعناها

لا تستخدم الشافطة كمقعد للجلوس أو كسلم أو للوقوف عليها. وإلا فقد تقع الشافطة أو تتعرض للضرر. خطر التعرض للإصابة.



أ مبر

A

مؤشر LED للوضع الأوتوماتيكي لتنظيف الفلتر

M

M

مؤشر LED للوضع اليدوي لتنظيف الفلتر

زر وظيفة تنظيف الفلتر الأوتوماتيكية



زر التنظيف اليدوي للفلتر



آلية التشغيل/الإيقاف



شفط الغبار المتساقط من العدد الكهربائية المشغلة، تعمل الشافطة أوتوماتيكياً وتتأخر بقدر بسيط عند الإيقاف. المقبس الكهربائي بالشافطة يسري به جهد كهربائي باستمرار.

الإيقاف



المقبس الكهربائي بالشافطة لا يسري به التيار.

الشفط



شفط الغبار المتراكم والغبار من نظام الشفط. المقبس الكهربائي بالشافطة يسري به جهد كهربائي باستمرار.

Min/Max



تكمم في قوة الشفط دون تدريج:
- أقصى قدرة شفط للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة كبيرة
- قدرة شفط مخفضة للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة أقل وللتحكم بقوة الشفط بين العدة الكهربائية الموصلة وسطح قطعة العمل (عند التجليخ مثلاً)

تسجيل البيانات مفعل في هذه الشافطة.



للصدمات الكهربائية في حالة تسرب الماء إلى الجزء العلوي من الشافطة.

◀ **قم بتوصيل الشافطة بشبكة كهربائية مؤرصة بشكل سليم.** يجب أن يحتوي المقبس الكهربائي وكابل الإطالة على وصلة أرضي سليمة.

◀ **لا تستخدم المقبس الكهربائي بالشافطة عند الشفط الرطب أو في البيئات المبتلة.** فقد تتسبب ملامسة الماء في خطر حدوث قفلة كهربائية أو التعرض لصدمة كهربائية.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الشافطة بطريقة أفضل وأكثر أماناً.


الرموز ومعناها



تحذير! اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



الشافطة من فئة الغبار L طبقاً للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 مخصصة للشفط الجاف للغبار المضر بالصحة ذي قيمة تعرض حديثة < 1 مجم/متر³



تحذير! تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعاء جميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.



لا تقم بتركيب إلا نظام حمل L-BOXX واحد كحد أقصى.



لا يجوز أن يتخطى وزن نظام الحمل L-BOXX بالإضافة إلى محتواه 15 كجم.

قم بتعليق الشافطة على خطاف مرفاع، على سبيل المثال لرفع النقل. الشافطة غير قابلة للرفع. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.



- (20) قضبان التوجيه لممسك التوجيه القابل للإخراج
(21) نطاق المسك الخلفي
(22) فوهة الفرشات كومي
(23) مهايئ الشفط كومي (للعدة الكهربائية)
(24) طرف غلق غطاء الفلتر
(25) غطاء الفلتر الأولي
(26) زر فك إقفال الفلتر الأولي
(27) خرطوم الشفط
(28) القطعة المنحنية
(29) كيس بلاستيكي
(30) فتحة مرور الهواء
(31) فلتر الطيات المسطح
(32) زر انضغاطي لخرطوم الشفط
(33) مهايئ PowerTool (الجزء الأمامي)
(34) مهايئ PowerTool (الجزء الخلفي)
(35) زر فك إقفال فوهة الفرشات كومي
(36) كيس الفلتر القماشي^a
(37) كيس الفلتر القماشي^a
(38) زر انضغاطي لممسك التوجيه^a
(39) ممسك توجيه قابل للإخراج^a
(40) غطاء فلتر الطيات المسطح
(41) الفلتر الأولي
(42) مستشعر مستوى الملء
(43) عوامة
(44) قفل العوامة
(45) مغناطيس
- (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتباري التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة/الرطبة		GAS 400 A
رقم الصنف		3 601 JMO 0..
الجهد الاسمي	فلط	220-240
قدرة الدخل الاسمية	واط	1200
التردد	هرتز	60-50
سعة الوعاء (الإجمالية)	لتر	40
السعة الصافية (جافة)	لتر	28
السعة الصافية (السائل)	لتر	20
أقصى ضغط تفريغ ^(A)		
- الشافطة	هيكوبا سكال	220
- التوربين	هيكوبا سكال	240
أقصى كمية تدفق ^(A)		
- الشافطة	لتر/ث	31
	متر ³ / ساعة	111,6

الرموز ومعناها

مواصفات الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة (حسب البلد)

max.
2100 W
min.
100 W

وصف المنتج والأداء

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

الاستعمال المخصص

الشافطة مخصصة لجميع أنواع الغبار الجافة غير القابلة للاشتعال والسوائل غير القابلة للاشتعال وشفطها ونقلها وفصلها. تم اختبار الشافطة فنيًا بصدد الأعباء وهي توافق فئة الغبار L. وهي مناسبة لتلبية المتطلبات العالية في حالة الاستخدام المهني، مثلًا في الأعمال الحرفية والصناعية والورش الفنية.

لا يجوز استخدام الشافطات من فئة الغبار L طبقًا للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 إلا في شفط وامتناص للغبار المضر بالصحة ذات قيمة تعرض حدية < 1 مجم/متر³.

استخدم الشافطة فقط إن كنت على دراية بجميع وظائفها بشكل كامل وقادر على تنفيذ هذه الوظائف دون تقييد أو إن كنت قد استلمت التعليمات الموافقة.

الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور الشافطة على صفحات الرسوم التخطيطية.

- (1) الوعاء
- (2) المفتاح الرئيسي
- (3) حاضن الخرطوم
- (4) مقبض العدة الكهربائية
- (5) مؤشر LED A للوضع الأوتوماتيكي لتنظيف الفلتر
- (6) مؤشر LED M للوضع اليدوي لتنظيف الفلتر
- (7) زر التنظيف اليدوي للفلتر
- (8) زر وظيفة تنظيف الفلتر الأوتوماتيكية
- (9) مفتاح التحكم في قدرة الشفط
- (10) مقبض حمل
- (11) حاضن نظام الحمل L-BOXX
- (12) الجزء العلوي من الشافطة
- (13) شريط السحب
- (14) فتحة التثبيت
- (15) قفل الجزء العلوي من الشافطة
- (16) عجلة
- (17) عجلة توجيه
- (18) مكعب عجلة التوجيه
- (19) حامل الكابل

خارجي يبلغ 45 مم مع عدد كهربائية لجهات صانعة أخرى.

قم بإدخال مهائئ PowerTool (الجزء الأمامي) (33) في مهائئ PowerTool (الجزء الخلفي) (34) وقم بتوصيل المهائئين من خلال إدارتهما في اتجاهين مختلفين (انظر الصورة B).

أدخل مهائئ الشفط كوميبي (23) في خرطوم الشفط (27)، إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (32) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

لغرض الفك اضغط على الأزرار الانضغاطية (32) للداخل واخلع مهائئ الشفط كوميبي من خرطوم الشفط.

لفصل المهائئين فم بفك الاتصال من خلال الإدارة في اتجاهين مختلفين، وقم بخلع المهائئين من بعضهما.

تركيب فوهة الفرشات كوميبي

أدخل فوهة الفرشات كوميبي (22) في خرطوم الشفط (27)، إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (32) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (32) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

ضبط فوهة الفرشات كوميبي (انظر الصورة C)

يمكنك استخدام فوهة الفرشات كوميبي (22) كفوهة شقوق أو فرشاة.

اضغط على زر تحرير الإقفال (35) وحرك الفرشاة إلى الأمام، لاستخدام فوهة الفرشاة كوميبي (22) كفرشاة.

اضغط زر التحرير (35) واسحب الفرشاة إلى الخلف، لاستخدام فوهة الفرشات كوميبي (22) كفوهة شقوق.

تركيب خرطوم الشفط (انظر الصورة D)

ضع خرطوم الشفط (27) على حاضن الخرطوم (3) وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية.

ملاحظة: أثناء الشفط ينشأ نتيجة امتسك الغبار بخرطوم الشفط وبتوابع الشافطة شمعة كهروستاتيكية يمكن أن يحس بها المستخدم في شكل تفريغ إلكتروستاتيكي (تبعاً للظروف المحيطة ودرجة حساسية جسم المستخدم).

بشكل عام، توصي شركة بوش باستخدام خرطوم شفط المضادة للشحنات الاستاتيكية (التوابع) عند شفط الأتربة الناعمة والخامات الجافة.

تثبيت خرطوم الشفط في الشافطة (انظر الصورة E)

قم بلف خرطوم الشفط المركب (27) حول حامل خرطوم الشافطة. اسحب شريطي الشد (13) إلى أعلى وقم بشبكهما في فتحات التثبيت (14).

إدخال كيس بلاستيكي/إخراجه (الشفط الجاف) (انظر الصورة F)

افتح القفلين (15) واخلع الجزء العلوي للشافطة (12).

للشفط الجاف قم بإدخال كيس بلاستيكي (29) في الوعاء (1).

شافطة المواد الجافة/الرطبة GAS 400 A

التوربين	لتر/ث	80
	متر ³ /ساعة	288
فئة الغبار		L
الوزن ^(B)	كجم	14,0
فئة الحماية		I/⊕
نوع الحماية		IPX4

(A) يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر 28 مم وبطول 4 م

(B) الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الانترنت www.bosch-professional.com/wac

آلية التشغيل/الإيقاف

أدنى قدرة	أقصى قدرة	الجهد الاسمي	3 601 JMO ...
100 واط	2100 واط	220 فلت	080
100 واط	2100 واط	220-240 فلت	020/0F0/ OK0/OE0
100 واط	1660 واط	220-240 فلت	0L0
100 واط	1000 واط	220-240 فلت	0H0/0N0

بيان الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة. قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.

التركيب

◀ **أفضل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانباً.** تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

تركيب توابع الشفط (انظر الصورة A)

خرطوم الشفط (27) مجهز بنظام تثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهائئ شفط كوميبي) (23)، القطعة المنحنية (28)، فوهة الفرشات كوميبي (22).

تركيب القطعة المنحنية

– أدخل القطعة المنحنية (28) في خرطوم الشفط (27) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (32) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

– لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (32) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

تركيب مهائئ الشفط كوميبي

يتكون مهائئ الشفط كوميبي (23) مهائئ PowerTool (الجزء الأمامي) (33) مهائئ PowerTool (الجزء الخلفي) (34).

مهائئ الشفط كوميبي (23) متوافق مع عدد بوش الكهربائية.

يمكن استخدام مهائئ PowerTool (الجزء الخلفي) (34) بقطر داخلي يبلغ 38,5 مم وقطر

◀ لا تقم بالشفط بينما نظام الحمل L-BOXX مركب. ينتقل مركز ثقل الشافطة إلى أعلى. يمكن أن تنقلب الشافطة. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.

◀ لا تمسك الشافطة من مقبض نظام الحمل L-BOXX المركب. فالشافطة ثقيلة للغاية بالنسبة لمقبض نظام الحمل L-BOXX. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.

تركيب ممسك التوجيه القابل للإخراج (توابع) (انظر الصور J-K)

إرشاد: لا يمكن فك ممسك التوجيه القابل للإخراج. احرص أثناء التركيب على مراعاة المحاذاة الصحيحة لممسك التوجيه.

قم بمحاذاة ممسك التوجيه (39) قبل التركيب بمساعدة العلامة R (يمينا) و L (يسارًا).

قم بتركيب ممسك التوجيه (39) في قضبان التوجيه (20).

اضغط ممسك التوجيه (39) إلى أسفل حتى خط المصد، إلى أن يثبت ممسك التوجيه.

اضغط على الزر الانضغاطي (38)، لتغيير طول ممسك التوجيه (39).

التشغيل

◀ افصل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

بدء التشغيل

◀ انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لوحة صنع الشافطة.

◀ استعلم عن التشريعات/القوانين السارية في بلدك المتعلقة بالتعامل مع الأتربة التي تمتل خطورة على الصحة.

يسمح باستخدام الشافطة الخوائية لشفط ومص المواد التالية:

- أنواع الغبار ذات قيمة تعرض حدية < 1 مجم/م³ لا يجوز أساسا استخدام الشافطة في المجرات المعرضة لخطر الانفجار.

لضمان قدرة شفط مثالية يجب دائما فك خرطوم الشفط (27) بشكل كامل من الجزء العلوي للشافطة (12).

التحكم في قوة الشفط

يمكن عن طريق منظم قدرة الشفط (9) التحكم في قوة الشفط دون تدريج.

قم بضبط منظم قدرة الشفط (9) للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة كبيرة على أقصى قدرة شفط.

اضبط منظم قدرة الشفط (9) للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة أقل وللتحكم، على سبيل المثال بقوة الشفط بين العدة الكهربائية الموصلة

ضع الكيس البلاستيكي (29) في الوعاء (1) بينما فتحة الملاء موجهة لأعلى.

تأكد أن الكيس البلاستيكي (29) ملتصق تماما بالجران الداخلية للوعاء (1).

اطو بقية الكيس البلاستيكي (29) فوق حافة الوعاء (1). احرص على أن يكون خط مصد الكيس البلاستيكي على حافة الوعاء وعلى أن تظل فتحات تدفق الهواء (30) بالوعاء.

أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (12) وقم بإغلاق الشافطة باستخدام الأقفال (15).

◀ تأكد دائما أن الشافطة مغلقة بشكل جيد.

قم بإغلاق الكيس البلاستيكي قبل إخراجها. أمسك فتحة الكيس من أعلى واستخدم شريط لربط الكيس.

تركيب/إخراج كيس الفلتر القماشي (الشفط الجاف) (انظر الصور G-H)

للشفط الجاف للمواد الموافقة لفئة الغبار L يمكنك تركيب كيس فلتر قماشي (37) (توابع).

طالما يتم شفط خامات ليس لها قيمة تعرض حدية أو بقيمة تعرض حدية ≤ 1 مجم/م³ (وفقا لفئة العبار L) يمكن الشفط مباشرة في الوعاء.

إرشاد: قم بإيقاف وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر عند استخدام كيس الفلتر القماشي (انظر „وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي/اليدوي للفلتر (انظر الصورة M)“، الصفحة 102).

تحذير تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة.

احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلغ وعاء جميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.

افتح الأقفال (15) واخلع الجزء العلوي للشافطة (12).

لغرض التركيب قم بإدخال كيس الفلتر القماشي (37) في حامل كيس الفلتر القماشي (36) وضع كيس الفلتر القماشي (37) مع حامل كيس الفلتر القماشي (36) في الوعاء (1).

لغرض الإخراج قم بغلق فتحة كيس الفلتر القماشي الممتلئ من خلال السحب من القفل. اخلع كيس الفلتر القماشي المغلق (37) من حامل كيس الفلتر القماشي (36) وأخرجه من الشافطة.

أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (12)، ومن خلال غلق الأقفال (15) قم بربط الوعاء (1) بالجزء العلوي للشافطة (12).

تركيب نظام الحمل L-BOXX (انظر الصورة A)

لنقل الشافطة ولتخزين ملحقات الشفط و/أو العدة الكهربائية في أصغر مكان ممكن يمكنك تركيب نظام حمل L-BOXX على الجزء العلوي من الشافطة.

تثبيت خرطوم الشفط في الشافطة (انظر الصورة E). قم بتركيب نظام الحمل L-BOXX على المواضن (11).

استخدام نظام الشفط (توابع)

قم بتوصيل نظام الشفط بخرطوم الشفط (27).

لشفط الغبار عبر نظام الشفط أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

ثبت نظام الشفط على الجدار وقم بتشغيل العدة الكهربائية. يلتصق نظام الشفط تلقائيًا من خلال ضغط التفريغ الناشئ.

قم بإيقاف العدة الكهربائية وأبعد نظام الشفط بحرص عن الجدار.

لغرض إيقاف الشفطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

**الشفط الرطب**

◀ لا تستخدم الشفطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشفطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

◀ لا يجوز استخدام الشفطة كمضخة ماء. هذه الشفطة مخصصة لشفط خليط من الهواء والماء. ملحوظة: تم التحقق من اشتراطات درجة النفاذ (فئة الغبار L) للشفط الجاف فقط.

قبل الشفط الرطب

قم بتفريغ لوعاء (1) وأخرج الكيس البلاستيكي (29) أو كيس الفلتر القماشي (37).

افحص مستشعر مستوى الماء (42) من حيث وجود اتساخات. يتبع مستشعر مستوى الماء التنظيف فقط إيقاف الأوتوماتيكي للشفطة عند الوصول إلى مستوى الماء الكامل لوعاء (انظر „تنظيف مستشعر مستوى الماء“ (انظر الصور Q-R)، الصفحة 103).

◀ أثناء الشفط الرطب يجب أن تكون وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر متوقفة.

اضغط على زر التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (8) لتفعيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (انظر „التنظيف اليدوي للفلتر“ الصفحة 102). وبذلك يتم إيقاف تفعيل الوظيفة الأوتوماتيكية لتنظيف الفلتر وينطفئ مؤشر (5) LED A.

شفط السوائل

⚠ تحذير
أوقف الشفطة على الفور في حالة خروج رغوة أو ماء، وقم بتفريغ الوعاء. وإلا فقد تتعرض الشفطة للضرر.

لغرض تشغيل الشفطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

الشفطة مزودة بمستشعرات مستوى الماء (42). في حالة الوصول إلى أقصى مستوى ملء تنطفئ الشفطة أوتوماتيكيًا وبضغ مؤشرا (5) LED A و M (6) في الوقت نفسه مرة واحدة كل ثانية. تكون واقية إعادة التشغيل مفعلة، ويمكن إيقاف تشغيلها من خلال تشغيل/إيقاف الشفطة مرة واحدة.

وسطح قطعة العمل (عند التخليج مثلًا) على وضع قدرة الشفط المخفضة.

المقيس الكهربائي بالشفطة

◀ تُراعى قدرة التوصيل المسموحة للمقيس الكهربائي بالشفطة. تغطي قدرة التوصيل القصوى المسموحة قد يؤدي إلى فرط التحميل على الشفطة. ينطلق مصهر حماية المحرك. أرسل الشفطة إلى أحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.

بمجرد إدخال القابس الكهربائي للشفطة في المقيس الكهربائي بينما المفتاح الرئيسي على الوضع 1 يسري جهد بالمقيس الكهربائي للعدد الكهربائي (4). يمكن استخدامه كوصلة تيار خارجية بالشفطة، على سبيل المثال عند العمل باستخدام أنظمة شفط. في الوضع 1+ تكون آلية التشغيل/الإيقاف لشفطة الغبار مفعلة. يمكن عن طريق العدة الكهربائية الموصلة تشغيل الشفطة عن بعد.

الشفط الجاف**شفط الغبار المتراكم**

لغرض تشغيل الشفطة أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.



لغرض إيقاف الشفطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

**شفط الغبار المتساقط من العدة الكهربائية المشغلة (انظر الصورة L)**

◀ يجب أن يكون معدل تغيير الهواء كافيًا في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة. تراعى التعليمات المحلية المعنية.

يوجد بالشفطة مقيس كهربائي مدمج للعدد الكهربائي (4). يمكنك توصيل عدة كهربائية خارجية في هذا المقيس الكهربائي. تراعى قدرة التوصيل القصوى المسموحة بالعدة الكهربائية الموصلة. قم بتركيب مهائى الشفط كومي (23) (انظر الصورة B).

أدخل مهائى الشفط كومي (23) في فوهة شفط العدة الكهربائية.

لغرض تشغيل آلية التشغيل/الإيقاف الخاصة بالشفطة أدر المفتاح الرئيسي (2) على الوضع 1+.



لغرض تشغيل الشفطة قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصلة بالمقيس (4).

تبدأ الشفطة في العمل أوتوماتيكيًا. قم بإطفاء العدة الكهربائية. لغرض إنهاء الشفط. تستمر وظيفة التشغيل اللاحق الخاصة بآلية التشغيل/الإيقاف لمدة تصل إلى 15 ث، لشفط بقايا الغبار من خرطوم الشفط.

لغرض إيقاف الشفطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.



المسطح من خلال الطرق أو النفخ للتنظيف، بل قد يضر للفلتر.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

◀ **افصل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا.** تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

◀ **حافظ على نظافة الشافطة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.**

◀ **احرص على ارتداء قناع الحماية من الغبار أثناء إجراء أعمال الصيانة والتنظيف على الشافطة.**

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

لكي تتم صيانة الشافطة من قبل المستخدم ينبغي أن يتم فكها وتنظيفها وصيانتها إلى الحد الجائز دون تشكيل أي خطر على القائم بالصيانة أو على غيره من الأشخاص. ينبغي تنظيف الشافطة قبل فكها لتجنب الأخطار المحتملة. يجب تهوية الحجرة التي تتم بها أعمال الصيانة بشكل جيد. قم بارتداء تجهيزات وقاية شخصية أثناء القيام بأعمال الصيانة. ينبغي تنظيف الحجرة التي تمّت بها أعمال الصيانة بعد إنهاء أعمال الصيانة.

ينبغي إجراء عملية اختبار فنية للغبار من قبل المنتج أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة على الأقل بصدد، تلف المرشح مثلًا أو عزل الشافطة أو سلامة عمل نظام التحكم.

بالنسبة للشافطات من الفئة L التي توجد في مكان متسخ ينبغي معالجة السطوح الخارجية وجميع أجزاء الماكينة بواسطة مواد عازلة. ينبغي التخلص من جميع الأجزاء المتسخة التي لا يمكن تنظيفها بطريقة مرضية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح. ينبغي التخلص من هذه الأجزاء داخل أكياس غير منفذة ووفقًا للأحكام السارية بصدد التخلص من هذه النفايات.

- احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.

تنظيف الوعاء

امسح الوعاء (1) من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متداولة غير صافلة ودعه يجف.

تنظيف/تغيير فلتر الطيات المسطح (انظر الصور N-O)

◀ **عند الفتح أمسك غطاء الفلتر من طرف الخلق، واحرص على ثبات غطاء الفلتر المفتوح في الوضع الرأسي.** في حالة سقوط غطاء الفلتر يكون هناك خطر إصابة.

تتوقف قدرة الشفط على حالة الفلتر. لذا قم بتنظيف الفلتر بانتظام.

قم باستبدال فلتر الطيات المسطح التالف (31) فورًا.

إرشاد: قم بفحص مستوى الماء بانتظام، وقم بتفريغ الوعاء في الوقت المناسب.

لغرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

أمسك الوعاء (1) من نطاق المسك الخلفي (21) وحركه إلى الأمام لتفريغ السائل.

بعد الشفط الربط

قم بعد كل تنظيف رطب بتنظيف مستشعر مستوى الماء (42) (انظر „تنظيف مستشعر مستوى الماء“ (انظر الصور Q-R)، الصفحة 103).

لتجنب حدوث تعفن بعد عمليات الشفط الربط:

- أخرج فلتر الطيات المسطح (31) واتركه كذلك لييجف جيدًا.

- اخلع الجزء العلوي للشافطة (12) وافتح غطاء الفلتر (40) واتركهما حتى يجفًا جيدًا.

وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي/اليدوي للفلتر (انظر الصورة M)

وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر

إرشاد: تكون وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر مضبوطة بشكل قياسي عند تشغيل الشافطة.

يضيء مؤشر (5) LED A بشكل مستمر.

في حالة وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر يتم تنظيف فلتر الطيات المسطح (31) كل 15 ثانية بواسطة دفعتي هواء (ضوضاء صاخبة).

يؤدي الاستعمال المنتظم لوظيفة تنظيف الفلتر إلى زيادة عمره الافتراضي.

للوصول إلى عمر افتراضي مثالي للفلتر لا تقم بإيقاف تفعيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر إلا في حالات استثنائية، على سبيل المثال في حالة عمليات الشفط الربط.

التنظيف اليدوي للفلتر

اضغط على زر التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (8)،

لتفعيل وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر. وبذلك يتم إيقاف تفعيل الوظيفة الأوتوماتيكية لتنظيف الفلتر وينطفئ مؤشر (5) LED A.

اضغط على زر وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر (7)، لإجراء التنظيف اليدوي للفلتر. يتم تنظيف فلتر الطيات

المسطح (31) من خلال دفعتي هواء. يضيء مؤشر (6) LED M لمدة ثانيتين باللون الأبيض. عندما

ينطفئ مؤشر (6) LED M يمكن إطلاق دفعة الهواء التالية. لهذا اضغط على زر التنظيف اليدوي

للفلتر (7) مجددًا.

إرشاد: انتبه إلى أنه في حالة التنظيف اليدوي للفلتر ينبغي أن يكون الفاصل الزمني بين كل ضغطة زر

2-3 ث. يتسبب الضغط المستمر عدة مرات على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) في تفعيل وظيفة الحماية

من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكيًا بعد بعض الوقت (انظر „إزالة الاختلالات“، الصفحة 103).

لإيقاف التنظيف اليدوي للفلتر اضغط على زر وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (8).

في حالة اتساخ فلتر الطيات المسطح من الخارج يظل يعمل بكفاءة. لا حاجة للتنظيف اليدوي للفلتر الطيات

قم بتنظيف العوامة (43) باستخدام قطعة قماش ناعمة.

عند اللزوم يمكنك إخراج العوامة. للقيام بذلك اضغط على القفل (44) واخلع العوامة (43).

قم بتنظيف المغناطيس (45) باستخدام الفرشاة.

قم بتركيب العوامة (43) مجددًا.

التخزين والنقل

قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (19).

أدخل التوابع في أماكن التثبيت المخصصة.

قم بلف خرطوم الشفط المركب (27) حول حامل

خرطوم الشافطة. اسحب شريطي الشد (13) إلى

أعلى وقم بشبكهما في فتحات التثبيت.

قم بتركيب نظام الحمل L-BOXX على المواضع

(11).

أخرج الكيس البلاستيكي/كيس الفلتر القماشي،

بمجرد امتلائه.

لا تحمل الشافطة من مقبض الحمل (10).

أوقف الشافطة في مكان جاف وقم بتأمينها على

أرضية مستوية ضد الاستخدام غير المسموح به.

للتثبيت عجلات التوجيه (17)، اضغط على مكبح عجلة

التوجيه (18).

لنقل الشافطة بشكل أخف مع الحفاظ على ظهرك

قم بتفريغ الوعاء تمامًا أو تخلص من الكيس

البلاستيكي/كيس الفلتر القماشي الممتلئ.

قم بتحرير قفل مكبح عجلة التوجيه (18) لدفع

الشافطة أو سحبها.

استخدم الممسك القوسي المخرج فقط (39) لدفع

الشافطة أو جذبها. لا يجوز جر الشافطة على

درجات السلم باستخدام ممسك التوجيه. يجب لهذا

الغرض استخدام مقبض الحمل.

يراعى عند حمل الشافطة على درجات سلم عدم

وجود أشخاص آخرين خلفك مباشرة تحسبًا لوقوع

شافطة الغبار بشكل غير متوقع.

إزالة الاختلالات

◀ في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع المرشح)

يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة

الخلل قبل مواصلة التشغيل.

– اجذب من طرف الغلق (24) وحرك غطاء الفلتر (40) إلى أعلى، إلى أن يثبت في الوضع الرأسي.

– أمسك فلتر الطيات المسطح (31) من الحواف وأخرجه من خلال رفعه للأعلى.

– أخرج الأتربة والاتساخات المتخلقة بعد خلع فلتر الطيات المسطح (31) باستخدام قطعة قماش مبللة من حافة الوعاء (1).

– يمكن غسل فلتر الطيات المسطح بالماء الجاري.

– قم بتركيب فلتر الطيات المسطح بعد تنظيفه أو الجديد (31) وتأكد من ثباته بشكل جيد وصحيح.

– أغلق غطاء الفلتر (40) إلى أن يثبت بصوت مسموع.

تنظيف الفلتر الأولي (انظر الصورة P)

◀ لا يجوز تبلييل الفلتر الأولي أثناء تنظيفه.

◀ لا تدخل يدك من أعلى بين ممسك التوجيه والشافطة لتحرير قفل غطاء الفلتر الأولي. وإلا فقد تنحصر يديك.

اجذب ممسك التوجيه (39) إلى أعلى، إلى أن يصيح الوصول إلى غطاء الفلتر الأولي من الخلف متأكدًا.

اضغط على زر فك الإقفال (26) الخاص بغطاء الفلتر الأولي (25) وأخرجه من درج الفلتر الأولي.

اخلع الفلتر الأولي (41).

قم بتنظيف شرائح الفلتر الأولي باستخدام فرشاة ناعمة.

ضع الفلتر الأولي في غطاء الفلتر الأولي (25).

قم بتركيب غطاء الفلتر الأولي (25) في درج الفلتر الأولي وقم بطيه.

تنظيف مستشعر مستوى الماء

(انظر الصور Q-R)

اسحب قابس الشبكة الكهربائية الخاص بالشافطة من المقبس الكهربائي.

اخلع الجزء العلوي من الشافطة (12).

قم بتفريغ الوعاء (1).

حرك العوامة (43) أو قم اطرق عليه برفق لإزالة الاتساخات.

المشكلة	العلاج
توربين الشفط لا يعمل.	افحص كابل الكهرباء والقابس الكهربائي والمصهر والمقبس ومستشعرات مستوى الماء (42).
	يكون المفتاح الرئيسي (2) على وضع «آلية التشغيل/الإيقاف».
	اضبط المفتاح الرئيسي (2) على الرمز «شفط» أو قم بتشغيل العدة الكهربائية المتصلة بالقابس الكهربائي (4).
توقف توربينة الشفط.	في حالة الشفط الرطب تومض مؤشرات LED A و M ببطء وفي الوقت نفسه.
	قم بتفريغ الوعاء (1).
	في حالة الشفط الجاف تومض مؤشرات LED A و M بسرعة وفي الوقت نفسه: تكون واقية فرط السخونة للمقبس الكهربائي بالشافطة مفعلة.
	أوقف العدة الكهربائية.
توقف الشافطة.	تحميل مفرط للشافطة من خلال تخطي الحد الأقصى لجهد المقبس الكهربائي بالشافطة: ينطلق مصهر حماية المحرك.

المشكلة	العلاج
لا تقم بإعادة تشغيل توربين الشفط بعد إفراغ الوعاء.	أرسل الشافطة إلى أحد مراكز خدمة العملاء Bosch المعتمدة. أوقف الشافطة وانتظر لمدة 5 ث، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد 5 ث. قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (42) بالإضافة للحيز البيئي لمستشعرات مستوى الملء (42) باستخدام فرشاة.
انخفاض قوة الشفط.	قم بإزالة الانسدادات من فوهة الشفط أو أنبوب الشفط أو خرطوم الشفط (27) أو فلتر الطيات المسطح (31). قم بتغيير الكيس البلاستيكي (29)/كيس الفلتر القماشي (37). قم بتثبيت غطاء الفلتر (40) بشكل صحيح.
خروج الغبار أثناء الشفط	قم بتركيب الجزء العلوي من الشافطة (12) بشكل صحيح وقم بتأمين الأقفال (15). قم بتغيير فلتر الطيات المسطح (31). تأكد من التركيب الصحيح لفلتر الطيات المسطح (31). قم بتغيير فلتر الطيات المسطح (31).
آلية الإيقاف الأوتوماتيكية لا تستجيب (الشفط الرطب).	قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (42) بالإضافة للحيز البيئي لمستشعرات مستوى الملء (42) باستخدام فرشاة. تحكم باستمرار في مستوى الملء.
وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر لا تعمل.	انتقل إلى الوضع اليدوي من خلال الضغط على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7). في حالة استمرار المشكلة اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.
تعذر انطلاق وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر.	وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة مفعلة. تسبب الضغط المستمر لعشر مرات على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكيًا بعد 20 ث. تسبب الضغط المستمر لثلاثين مرة على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكيًا بعد 4 دقائق. في حالة استمرار المشكلة اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.
لا تنطلق وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر.	اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الشافطة الخوائية والتوابع والتغليف بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع. لا ترم الشافطة في النفايات المنزلية!



خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com
يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.
يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53، شارع الملازم محمد محروود
20300 الدار البيضاء
الهاتف: +212 5 29 31 43 27
البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

فارسی

راهنمایهای ایمنی برای جاروبرقی



همه دستورات ایمنی و راهنماییها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات

های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

این مکنده (جاروبرقی) برای استفاده توسط کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی مناسب نیست. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحی وجود دارد.

مواظب کودکان باشید.

اینگونه اطمینان حاصل می کنید که کودکان با جاروبرقی بازی نمی کنند.

تمام مقررات ایمنی مربوط به موادی که قرار است جاروبرقی شوند را رعایت کنید.

از مکش گرد و غبار چوب درخت بلوط و راش، گرد و غبار سنگ و آزبست، خودداری کنید. این مواد سرطانزا هستند.

هشدار تنها وقتی جاروبرقی را بکار برید که اطلاعات کافی در

مورد نحوه کاربری آن، مواد مورد مکش و دفع مطمئن آنها را دریافت کرده‌اید. بکارگیری دقیق راهنمایها، استفاده اشتباه و بروز جراحات را کاهش می دهد.

هشدار این جاروبرقی برای مکش مواد خشک و در صورت

تدبیرات متناسب جهت مکش مایعات نیز مناسب است. نفوذ مایعات خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد و غبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خودداری کنید. از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

هشدار از پرریش تنها برای موارد تعیین شده در دفترچه راهنما

استفاده کنید.

هشدار

به محض خارج شدن کف یا آب از جاروبرقی، آن را سریع خاموش کنید و محفظه را تخلیه کنید. جاروبرقی ممکن است در غیر اینصورت آسیب ببیند.

توجه! جاروبرقی را با ایستنی تنها در فضاهای داخلی نگهداری کرد.

توجه! جسگرهای وضعیت ظرفیت مایعات را مرتب تمیز کنید و آنها را از نظر آسیب‌پذیری کنترل نمایید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه دچار اختلال می گردد.

در صورت لزوم کار با جاروبرقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

قبل از هر بار استفاده، جاروبرقی، کابل و دوشاخه را کنترل کنید. در صورت تشخیص هر گونه آسیب دیدگی، از جاروبرقی استفاده نکنید. جاروبرقی را سر خود باز نکنید و برای تعمیر دستگاه فقط به متخصصین حرفه ای رجوع و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. کابل، دوشاخه و کلید آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.

کابل را لگدمال یا له نکنید. جهت درآوردن دوشاخه از پرریش یا حرکت دادن جاروبرقی از کشیدن کابل خودداری کنید. کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهند.

قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخه را از پرریش بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

مراقب باشید که محل کار شما از تهویه کافی برخوردار باشد.

برای تعمیر دستگاه فقط به متخصصین حرفه ای رجوع و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. اینگونه ایمنی جاروبرقی تضمین می شود.

هشدار مکنده حاوی گرد و غبار مضر برای سلامتی می باشد.

عملیات سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمعآوری گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفه ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب الزامیست. مکنده را بدون سیستم فیلتر نصب شده کامل و دقیق بکار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.


قبل از راهاندازی، از بینقصی شلنگ مکش اطمینان حاصل کنید. در این حالت، شلنگ مکش را روی جاروبرقی نصب شده بگذارید تا ناخواسته هیچ گرد و غباری خارج نشود. در غیر اینصورت ممکن است، گرد و غبار تنفس کنید.

روی جاروبرقی ننشینید. این باعث آسیب دیدگی جاروبرقی می شود.



در نحوه کاربری کابل برق و شلنگ مکش دقت کنید. امکان به خطر انداختن اشخاص دیگر وجود دارد.

علائم و مفهوم آنها

جاروبرقی را، برای مثال جهت حمل و نقل، به قلاب جرثقیل آویزان نکنید. جاروبرقی قابل حمل یا جرثقیل نیست. خطر جراثمت و آسیب دیدگی وجود دارد.



از جاروبرقی به عنوان صندلی، نردبان یا پله استفاده نکنید. جاروبرقی ممکن است واژگون شود و آسیب ببیند. خطر جراثمت وجود دارد.

A نشانگر LED حالت تمیزکاری خودکار فیلتر

M نشانگر LED حالت تمیزکاری دستی فیلتر

دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر

دکمه تمیزکاری فیلتر به صورت دستی

شروع/توقف خودکار
مکش گرد و غبارهای تولید شده توسط ابزارهای برقی در حال کار؛ جاروبرقی به طور اتوماتیک روشن و با تاخیر زمانی دوباره خاموش می شود.
پریز روی جاروبرقی به طور دائم دارای ولتاژ است.

خاموش کردن
پریز جاروبرقی دارای ولتاژ نیست.

جارو زدن
مکش گرد و غبارهای باقی مانده و گرد و غبار سیستم مکنده.
پریز روی جاروبرقی به طور دائم دارای ولتاژ است.

Min/Max
تنظیم بدون درجه توان مکش:
- حداکثر توان مکش برای کاربردهای با تولید گرد و غبار زیاد
- توان مکش کم برای کاربردهای با تولید گرد و غبار کم و برای تنظیم نیروی مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطح قطعه کار (مثلاً برای سایش کاری)

⚠ **جاروبرقی را با فشار مستقیم آب تمیز نکنید.** نفوذ آب به قسمت بالای جاروبرقی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

⚠ **دستگاه مکش را به یک منبع جریان برق که مطابق مقررات، ارت دار شده باشد، متصل کنید.** پریز و کابل رابط باید دارای هادی حفاظتی فعال باشند.

⚠ **از پریز جاروبرقی در مکش تر یا محیط مرطوب استفاده نکنید.** تماس با آب خطر اتصال کوتاه یا برق گرفتگی را دارد.

علائم

علائم زیر ممکن است برای استفاده از جاروبرقی شما حائز اهمیت باشند. لطفاً این علائم و معانی آنها را به خاطر بسپارید. تعریف درست این علائم به شما جهت استفاده بهتر و ایمن تر از جاروبرقی کمک می کند.

علائم و مفهوم آنها

هشدار! تمامی نکات ایمنی و دستورالعمل ها را بخوانید. عدم رعایت نکات ایمنی و دستور العمل ها ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و/یا جراحات شدید شود.

جاروبرقی کلاس گرد و غبار L مطابق با IEC/EN 60335-2-69 جهت مکش خشک گرد و غبارهای مضر برای سلامتی با آستانه انفجار < 1 mg/m³

هشدار! جاروبرقی حاوی گرد و غبار مضر برای سلامتی می باشد. عملیات سرویس و تخلیه و همچنین دفع محفظه جمع آوری گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفه ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب الزامیست. جاروبرقی را بدون نصب کامل و دقیق سیستم فیلتر، به کار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.




تنها حداکثر یک L-BOXX را باز کنید. وزن L-BOXX به همراه محتویات نباید از 15 kg بیشتر شود.



علامه و مفهوم آنها

ثبت اطلاعات در این جاروبرقی فعال است.



مشخصات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده (برحسب کشور)

max.
2100 W
min.
100 W

توضیحات محصول و کارکرد

به تصویرهای واقع در بخشهای اول دفترچه راهنما توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این جاروبرقی برای جمع آوری، مکش، هدایت و جداسازی گرد و غبار خشک و غیر قابل اشتعال و مایعات غیر قابل اشتعال در نظر گرفته شده است. این جاروبرقی از نظر فنی نسبت به گرد و غبار کنترل شده است و مطابق با کلاس L می باشد. برای انتظارات بالای استفاده حرفه ای، به طور مثال صنعتی، کارگاهی و کار فنی مناسب است.

جاروبرقی کلاس گرد و غبار L مطابق با IEC/EN 60335-2-69 را باید فقط برای جمع آوری و مکش گرد و غبارهای مضر برای سلامتی با آستانه انفجار $1 \text{ mg/m}^3 <$ به کار برد.

تنها وقتی از جاروبرقی استفاده کنید که با تمام کاراییهای آن آشنا هستید و می توانید بدون محدودیتی آن را بکار گیرید و یا راهنماییهای مربوطه را دریافت کرده اید.

تصاویر اجزاء دستگاه

شماره اجزایی که در تصویر مشاهده می شود، مربوط به شرح مکنده می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنما آمده است.

(1) محفظه

(2) کلید اصلی

(3) نگهدارنده شیلنگ

(4) پریز برق برای ابزار برقی

(5) نشانگر A LED حالت تمیزکاری خودکار فیلتر

(6) نشانگر M LED حالت تمیزکاری دستی فیلتر

(7) دکمه تمیزکاری فیلتر به صورت دستی

(8) دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر

(9) تنظیم کننده توان مکش

(10) دسته حمل و نقل

(11) نگهدارنده L-BOXX

(12) قسمت بالای جاروبرقی

(13) نوار کششی

(14) دهانه تثبیت

(15) قفل قسمت بالای جاروبرقی

- (16) چرخ
(17) چرخ گردان
(18) ترمز چرخ های گردان
(19) نگهدارنده کابل
(20) ریل راهنما برای دسته فرمان
(21) محدوده دستگیره عقب
(22) نازل برس ترکیبی
(23) آداپتور مکش ترکیبی (برای ابزار برقی)
(24) زبانه قفل درپوش فیلتر
(25) درپوش فیلتر اولیه
(26) دکمه آزادکننده قفل فیلتر اولیه
(27) شیلنگ مکش
(28) نازل خمیده
(29) کیسه پلاستیکی
(30) دهانه عبور هوا
(31) فیلتر پره ای تخت
(32) دکمه فشاری شیلنگ مکش
(33) آداپتور PowerTool (ابزار برقی) (قسمت جلویی)
(34) آداپتور PowerTool (ابزار برقی) (قسمت عقبی)
(35) دکمه آزادکننده قفل نازل برس ترکیبی
(36) نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی^(a)
(37) کیسه فیلتر نمدی^(a)
(38) دکمه فشاری دسته فرمان^(a)
(39) دسته فرمان تلسکوپی^(a)
(40) درپوش فیلتر پره ای تخت
(41) فیلتر اولیه
(42) حسگر میزان پر شدن
(43) شناور
(44) قفل شناور
(45) آهنربا

(a) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لیست کامل متعلقات را در برنامه متعلقات ما می یابید.

مشخصات فنی

جاروبرقی تَر/خشک GAS 400 A	
3601 JMO 0..	شماره فنی
220-240	ولتاژ نامی V
1200	توان ورودی نامی W
50-60	فرکانس Hz
40	حجم محفظه (ناخالص) l
28	حجم خالص (خشک) l
20	حجم خالص (مایع) l
	حداکثر فشار خلا ^(A)
220	- جاروبرقی hPa

نحوه نصب آداپتور مکش ترکیبی

آداپتور مکش ترکیبی (23) از آداپتور PowerTool (قسمت جلویی) (33) و آداپتور PowerTool (قسمت عقبی) (34) تشکیل شده است.

آداپتور مکش ترکیبی (23) با ابزارهای برقی بوش سازگار است.

آداپتور PowerTool (قسمت عقبی) (34) به دلیل قطر داخلی 38,5 mm و قطر بیرونی 45 mm می تواند برای ابزارهای برقی سایر سازندگان استفاده شود.

آداپتور PowerTool (قسمت جلویی) (33) را به آداپتور PowerTool (قسمت عقبی) (34) وصل کنید و دو آداپتور را با چرخاندن آنها در جهت مخالف به هم متصل کنید (رجوع کنید به تصویر B).

آداپتور مکش ترکیبی (23) را روی شیلنگ مکش (27) قرار دهید، تا جایی که هر دو دکمه فشاری (32) شیلنگ مکش بطور محسوس جا بیفتند. برای جدا کردن، دکمه های فشاری (32) را به سمت داخل فشار دهید و آداپتور مکش ترکیبی را از شیلنگ مکش بیرون بکشید.

برای جدا کردن هر دو آداپتور، اتصال را با چرخاندن آنها در جهت مخالف باز کنید و آداپتورها را از هم جدا کنید.

نصب نازل برس ترکیبی

نازل برس ترکیبی (22) را روی شیلنگ مکش (27) قرار دهید، تا جایی که هر دو دکمه فشاری (32) شیلنگ مکش بطور محسوس جا بیفتند.

به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (32) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

تنظیم نازل برس ترکیبی (رجوع کنید به تصویر C)

از نازل ترکیبی (22) به عنوان نازل دوکی یا برس استفاده کنید.

برای استفاده از نازل ترکیبی (22) به عنوان برس، دکمه آزادکننده قفل (35) را فشار دهید و برس را به جلو هدایت کنید.

برای استفاده از نازل ترکیبی (22) به عنوان نازل دوکی، دکمه آزادکننده قفل (35) را فشار دهید و برس را به عقب بکشید.

نحوه نصب شیلنگ مکش (رجوع کنید

به تصویر D)

شیلنگ مکش (27) را روی نگهدارنده شیلنگ (3) قرار دهید و آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها بچرخانید.

نکته: هنگام کار، به دلیل مالش گرد و غبار در شلنگ مکش و متعلقات، بار الکترومغناطیسی ایجاد می شود که ممکن است کاربر به شکل تخلیه بار الکتریکی حس کند (بر حسب شرایط محیطی و حس کاربر).

به طور کلی شرکت Bosch استفاده از یک شلنگ مکش ضد استاتیکی (متعلقات) را جهت مکش ریزگرد و مواد خشک توصیه میکند.

جاروبرقی تَر/خشک		GAS 400 A
- توربین	hPa	240
حداکثر میزان جریان ^(A)		
- جاروبرقی	l/s	31
	m ³ /h	111,6
- توربین	l/s	80
	m ³ /h	288
کلاس گرد و غبار		L
وزن ^(B)	kg	14,0
کلاس ایمنی		I/⊕
نوع حفاظت		IPX4

(A) اندازهگیری شده با یک شلنگ مکش دارای قطر 28 میلیمتر و طول 4 متر

(B) وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

شروع/توقف اتوماتیک			
... JM0 3 601 3 ولتاژ نامی حداکثر توان حداقل توان			
080	220 V	2100 W	100 W
020/0F0/ OK0/OE0	220-240 V	2100 W	100 W
0L0	220-240 V	1660 W	100 W
0H0/0N0	220-240 V	1000 W	100 W

اطلاعات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده. در مورد سایر مدل های مربوط به هر کشور ممکن است این مقادیر تغییر کند. لطفاً به اطلاعات روی پرز مکنده توجه کنید.

نصب

◀ قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخا را از پرز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

نصب متعلقات مکش (رجوع شود به

تصویر A)

شیلنگ مکش (27) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک است، که می تواند به متعلقات مکش (آداپتور مکش ترکیبی (23)، نازل سرکج (28) نازل برس دار ترکیبی (22)) متصل شود.

نصب نازل سرکج

- نازل سرکج (28) را روی شیلنگ مکش (27) قرار دهید تا هر دو دکمه فشاری (32) شیلنگ مکش به طور محسوس جا بیفتند.

- به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (32) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

برای بیرون آوردن، دهانه کیسه فیلتر نمدی پر شده را با کشیدن سرپوش آن ببندید. کیسه فیلتر نمدی (37) بسته شده را از نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی (36) بیرون بیاورید و از جاروبرقی خارج کنید. قسمت بالای جاروبرقی (12) را دوباره در جای خود قرار دهید و با بستن قفل های (15) محفظه (1) را به قسمت بالای جاروبرقی (12) وصل کنید.

باز کردن L-Boxx (رجوع کنید به تصویر 1)

برای حمل و نقل مکنده و جهت صرفه جویی در جا هنگام نگهداری متعلقات مکنده در انبار و/یا ابزار برقی می توان L-Boxx از قسمت بالایی مکنده باز کرد.

شیلنگ مکش را روی جاروبرقی تثبیت کنید (رجوع کنید به تصویر E).

L-Boxx را در نگهدارنده (11) جا ببندازید.

◀ از مکنده بدون L-Boxx استفاده نکنید. نقطه ثقل مکنده به بالا تغییر می کند. ممکن است مکنده واژگون شود. خطر جراحت یا آسیب دیدگی وجود دارد.

◀ مکنده را از طرف دسته L-Boxx باز شده حمل نکنید. مکنده برای دسته L-Boxx بسیار سنگین است. خطر جراحت یا آسیب دیدگی وجود دارد.

نصب دسته فرمان تلسکوپی (متعلقات) (رجوع کنید به تصویر J-K)

نکته: امکان جداسازی دسته فرمان تلسکوپی وجود ندارد. در طول نصب، مطمئن شوید که دسته فرمان به درستی تراز شده است.

قبل از قرار دادن، دسته فرمان (39) را با استفاده از علامتهای R (راست) و L (چپ) تراز کنید.

دسته فرمان (39) را درون ریل راهنما (20) قرار دهید.

دسته فرمان (39) را تا خط توقف فشار دهید تا به طور محسوس در محل خود جا بیفتد.

با فشار دادن دکمه فشاری (38)، طول دسته فرمان (39) را تغییر دهید.

طرز کار با دستگاه

◀ قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخا را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

◀ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب جارو برقی مطابقت داشته باشد.

◀ در مورد نحوه ی برخورد با گرد و غبار های مضر برای سلامتی از قوانین و مقررات معتبر مربوط به کشور خود کسب اطلاع کنید.

از جاروبرقی می توان برای جارو کردن و مکش مواد زیر استفاده نمود:

- گرد و غبارهای با مقدار مرزی انفجار $1 \text{ mg/m}^3 <$

نحوه تثبیت شیلنگ مکش روی جاروبرقی (رجوع کنید به تصویر E)

شیلنگ مکش (27) نصب شده را در محفظه شیلنگ مکش ببندید. دو نوار کششی (13) را به بالا بکشید و در دهانه (14) تثبیت قلاب کنید.

نحوه قرار دادن/برداشتن کیسه پلاستیکی (مکش خشک) (رجوع کنید به تصویر F)

هر دو قفل (15) را باز کنید و قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید.

برای مکش خشک، یک کیسه پلاستیکی (29) داخل محفظه (1) قرار دهید.

کیسه پلاستیکی (29) را به صورت سوراخ ورودی رو به بالا در محفظه (1) قرار دهید.

مطمئن شوید که کیسه پلاستیکی (29) کاملاً بر دیوارهای داخلی محفظه (1) واقع شود.

بقیه کیسه پلاستیکی (29) را روی دیواره محفظه (1) بکشید. اطمینان حاصل کنید که خط توقف کیسه پلاستیکی روی لبه طرف باشد و منافذ عبور (30) هوا در ظرف باقی بماند.

قسمت بالای جاروبرقی (12) را دوباره قرار دهید و جاروبرقی را توسط قفل ها (15) ببندید.

◀ دقت کنید که جاروبرقی همیشه به خوبی بسته شده باشد.

کیسه پلاستیکی را قبل از برداشتن آن، ببندید. قسمت بالای کیسه را کنار هم نگه دارید و آنرا با استفاده از یک نوار گره بزنید.

نحوه قرار دادن/برداشتن کیسه فیلتر نمدی (مکش خشک) (رجوع کنید به تصویر G-H)

برای مکش خشک مواد مطابق با کلاس گرد و غبار L، می توانید از یک کیسه فیلتر نمدی (37) (متعلقات) استفاده کنید.

در صورت مکش مواد بدون مقدار مرزی انفجاری $1 \text{ mg/m}^3 \geq$ (مطابق با کلاس گرد و غبار L) می توان مستقیم به داخل محفظه مکش انجام داد.

نکته: هنگام استفاده از کیسه نمدی، تمیزکاری خودکار فیلتر را خاموش کنید (رجوع کنید به «تمیزکاری خودکار/دستی فیلتر (رجوع کنید به تصویر M)»، صفحه 111).

⚠ هشدار مکنده حاوی گرد و غبار مضر برای سلامتی می باشد.

عملیات سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمعآوری گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفه ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب الزامیست. مکنده را بدون سیستم فیلتر نصب شده کامل و دقیق بکار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.

قفل ها (15) را باز کنید و قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید.

برای نصب، کیسه فیلتر نمدی (37) را روی نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی (36) قرار دهید و کیسه فیلتر نمدی (37) را به همراه نگهدارنده (36) داخل محفظه (1) قرار دهید.

از جاروبرقی کلا در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید.

جهت تضمین کارایی بهینه، بایستی شلنگ مکش (27) را همیشه کاملاً دور قسمت بالایی مکنده (12) کلاف کنید.

تنظیم قدرت مکش

با استفاده از تنظیم کننده توان مکش (9) می توانید قدرت مکش را به طور مداوم تعدیل کنید.

تنظیم کننده توان مکش (9) را برای کاربردهایی که گرد و غبار زیادی تولید می کنند روی حداکثر قدرت مکش تنظیم کنید.

تنظیم کننده قدرت مکش (9) را برای کاربردهای با تولید گرد و غبار کم و تنظیم نیروی مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطح قطعه کار (مثلاً برای سایش کاری)، روی توان مکش کم قرار دهید.

پریز روی جاروبرقی

لطفاً به ظرفیت اتصال مجاز پریز روی جاروبرقی توجه کنید. تجاوز از حداکثر ظرفیت مجاز می تواند باعث ایجاد بار اضافی روی جاروبرقی شود. فیوز محافظ موتور فعال می شود. جاروبرقی را به یکی از مراکز مجاز Bosch خدمات مشتریان ارسال کنید.

به محض اینکه دوشاخه جاروبرقی وارد پریز شود و کلید اصلی در موقعیت 1 قرار گیرد، پریز ابزار برقی (4) دارای ولتاژ می شود. می توان از آن به عنوان یک اتصال برق خارجی در جاروبرقی استفاده کرد، به عنوان مثال هنگام کار با سیستم های مکش. در موقعیت 1+ شروع/توقف خودکار جاروبرقی فعال می شود. جاروبرقی را می توان با استفاده از ابزار برقی متصل از راه دور روشن کرد.

مکش خشک

مکش گرد و غبارهای جمع شده

برای روشن کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.



برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.



نحوه مکش گرد و غبار ناشی از ابزارهای برقی در حال کار (رجوع کنید به تصویر L)

چنانچه خروجی هوا در اتاق کاهش یابد، باید جریان تهویه کافی هوا در اتاق برقرار باشد. به قوانین کشور خود توجه نمایید.

یک پریز برای ابزار برقی (4) در جاروبرقی تعبیه شده است. شما می توانید یک ابزار برقی خارجی را به این پریز متصل کنید. به حداکثر توان مجاز اتصال ابزار برقی متصل توجه داشته باشید.

نصب آداپتور مکش ترکیبی (23) (رجوع کنید به تصویر B).

آداپتور مکش ترکیبی (23) را در لوله اتصال به دستگاه مکش ابزار برقی وارد کنید.

برای روشن کردن شروع/توقف خودکار جاروبرقی، کلید اصلی (2) را به موقعیت 1+ بچرخانید.



برای راه اندازی جاروبرقی، ابزار برقی متصل به پریز (4) را روشن کنید.

جاروبرقی به طور خودکار شروع به کار می کند. برای متوقف کردن مکش، ابزار برقی را خاموش کنید.

تداوم عملکرد شروع/توقف خودکار تا 15 ثانیه ادامه دارد تا بتواند بقایای گرد و غبار را از شیلنگ مکش بیرون بکشد.

برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.



استفاده از سیستم مکش (متعلقات)

سیستم مکش را به شیلنگ مکش (27) وصل کنید.

برای مکش گرد و غبار از طریق

سیستم مکش، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.



سیستم مکش را روی دیوار نگه دارید و ابزار برقی را روشن کنید. به دلیل فشار منفی حاصل شده، سیستم مکش به طور مستقل می چسبد.

ابزار برقی را خاموش کنید و سیستم مکش را با دقت از دیوار جدا کنید.

برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.



مکش مرطوب

از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد و غبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خودداری کنید. از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

از مکنده به عنوان پمپ آب استفاده نکنید. مکنده برای مکش هوا و مخلوط آب در نظر گرفته شده است.

نکته: شرایط مربوط به درجه ورودی (کلاس گرد و غبار L) برای مکش خشک در نظر گرفته شده است.

قبل از مکش تر

محفظه (1) را خالی کنید و کیسه پلاستیکی (29) یا کیسه فیلتر نمدی (37) را بردارید.

حسگر میزان پر شدن (42) را از نظر آلودگی بررسی کنید. فقط یک حسگر میزان پر شدن تمیز به جاروبرقی امکان می دهد هنگام پر شدن محفظه به طور خودکار خاموش شود (رجوع کنید به "تمیز کردن حسگر میزان پر شدن (رجوع کنید به تصویر Q-R)"، صفحه 112).

تمیزکاری خودکار فیلتر باید هنگام جارو زدن مواد مرطوب غیرفعال شود.

برای تمیز کردن دستی فیلتر، دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (7) را فشار دهید. فیلتر پره ای تخت (31) با مدت 2 ثانیه هوا تمیز می شود. نشانگر (6) LED M به مدت 2 ثانیه با رنگ سفید روشن می شود. هنگامی که نشانگر (6) LED M خاموش شد، پمپاژ بعدی هوا می تواند فعال شود. برای انجام این کار، دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (7) را دوباره فشار دهید.

نکته: هنگام تمیز کردن دستی فیلتر، توجه داشته باشید که فاصله زمانی بین هر بار فشار دادن دکمه باید 2 تا 3 ثانیه باشد. چندین بار فشار دادن مداوم دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (7)، حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد جاروبرقی را فعال می کند. حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از مدتی به طور خودکار غیرفعال می شود (رجوع کنید به «رفع ایرادها»، صفحه 112).

برای خاموش کردن حالت تمیزکاری دستی فیلتر، دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (8) را فشار دهید. یک فیلتر پره ای تخت با آلودگی سطحی، هنوز قابل استفاده است. تمیز کردن دستی فیلتر پره ای تخت با به ضربه زدن یا دمیدن باد ضروری نیست و ممکن است حتی به فیلتر آسیب برساند.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

◀ **قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخا را از پریز بکشید.** رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

◀ **جاروبرقی و دریچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدارید.**

◀ **هنگام تمیز کردن و سرویس مکنده از یک ماسک تنفسی استفاده کنید.**

در صورت نیاز به یک کابل پدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

چنانچه در صورت امکان، سرویس توسط کاریر انجام می گردد، باید جاروبرقی از هم باز، تمیز و سرویس شود، بدون اینکه در حین کار خطری متوجه پرسنل سرویس یا اشخاص دیگر شود. جاروبرقی باید قبل از باز کردن تمیز شود تا از بروز خطرات ممکن جلوگیری شود. مکانی که در آن جاروبرقی باز می شود، را باید به خوبی تهویه کرد. هنگام سرویس از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. پس از انجام سرویس باید منطقه سرویس را تمیز کرد. جاروبرقی را حداقل یک بار در سال از طریق شرکت یا به کمک افراد متخصص از نظر فنی کنترل کنید، مثلاً از نظر آسیب دیدگی فیلتر، کیپ بودن مکنده و عملکرد تجهیزات کنترل.

در مورد جاروبرقی های کلاس L که در محیط کثیف بوده اند، باید بخش بیرونی و همچنین همه قطعات دستگاه تمیز شوند یا با مواد مخصوص، آب بندی شوند. هنگام سرویس یا انجام تعمیرات باید تمام قطعات کثیفی را که نمی توان به اندازه کافی تمیز

دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (8) را فشار دهید تا تمیز کردن دستی فیلتر فعال شود (رجوع کنید به «تمیزکاری فیلتر به صورت دستی»، صفحه 111). تمیزکاری خودکار فیلتر غیرفعال شده و نشانگر (5) LED A خاموش می شود.

مکش مایعات

هشدار **به محض خارج شدن کف یا آب از جاروبرقی، آن را سریع خاموش کنید و محفظه را تخلیه کنید.** جاروبرقی ممکن است در غیر اینصورت آسیب ببیند. برای روشن کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.

جاروبرقی به حسگرهای میزان پر شدن ظرف (42) مجهز است. هنگامی که میزان پر شدن به سطح حداکثر برسد، جاروبرقی به طور خودکار خاموش می شود و هر دو نشانگر (5) LED A و (6) M هر 1 ثانیه هم زمان چشمکی می زنند. محافظ استارت مجدد فعال می شود و می تواند با 1 بار روشن/خاموش کردن جاروبرقی غیرفعال شود.

نکته: سطح را به طور مرتب بررسی کنید و محفظه را به موقع خالی کنید.

برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.

محفظه (1) را از محدوده دستگیره عقب (21) بگیرید و آنرا به جلو بچرخانید تا مایع خالی شود.

پس از مکش تر

حسگر میزان پر شدن (42) را بعد از مکش تر تمیز کنید (رجوع کنید به «تمیز کردن حسگر میزان پر شدن (رجوع کنید به تصویر Q-R)»، صفحه 112).

برای جلوگیری از تشکیل قارچ پس از مکش تر:

- فیلتر پره ای تخت (31) را بیرون بیاورید و بگذارید خوب خشک شود.

- قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید، درپوش فیلتر (40) را باز کنید و بگذارید هر دو تای آنها خوب خشک شوند.

تمیزکاری خودکار/دستی فیلتر (رجوع کنید به تصویر M)

تمیزکاری خودکار فیلتر

نکته: هنگام روشن کردن جاروبرقی، تمیزکاری خودکار فیلتر به صورت پیش فرض تنظیم شده است. نشانگر (5) LED A به طور مداوم روشن می ماند. هنگام تمیزکاری خودکار، فیلتر پره ای تخت (31) هر 15 ثانیه یکبار با دو پمپاژ هوا تمیز می شود (صدای ضربانی).

در صورت استفاده مرتب از تمیز کننده فیلتر، زمان ماندگاری فیلتر افزایش می یابد.

برای بدست آوردن مدت زمان عالی ماندگاری فیلتر، تمیزکاری خودکار فیلتر را تنها در موارد استثناء غیر فعال کنید، برای مثال هنگام مکش تر.

تمیزکاری فیلتر به صورت دستی

دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (8) را فشار دهید تا تمیز کردن دستی فیلتر فعال شود. تمیزکاری خودکار فیلتر غیرفعال شده و نشانگر (5) LED A خاموش می شود.

تميز کردن حسگر میزان پر شدن (رجوع کنید به تصویر Q-R)

- دوشاخه جاروبرقی را پریز برق جدا کنید.
- قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید.
- محفظه (1) را خالی کنید.
- شناور (43) را تکان دهید یا آرام به آن ضربه بزنید تا ذرات و آلودگی‌ها از آن جدا شوند.
- شناور (43) را با یک دستمال نرم تمیز کنید.
- در صورت لزوم، می‌توانید شناور را بیرون نیز بیاورید. برای این منظور، قفل (44) را فشار دهید و شناور (43) را بردارید.
- آهنربا (45) را با یک برس تمیز کنید.
- شناور (43) را دوباره نصب کنید.

نگهداری و حمل و نقل

- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (19) کلاف کنید.
- متعلقات را در نگهدارنده‌های مربوطه قرار دهید.
- شیلنگ مکش (27) نصب شده را در محفظه شیلنگ مکش بپیچید. دو نوار کششی (13) را به بالا بکشید و در دهانه‌های تثبیت قلاب کنید.
- L-BOXX را در نگهدارنده (11) جا بیندازید.
- کیسه پلاستیکی/کیسه فیلتر نمدی را به محض پر شدن خارج کنید.
- جاروبرقی را از دسته (10) حمل کنید.
- جاروبرقی را در یک اتاق خشک با سطح صاف قرار دهید و از آن در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.
- جهت تثبیت کردن چرخ‌های گردان (17)، ترمز چرخ‌های گردان (18) را پایین بیاورید.
- برای حمل و نقل راحت جاروبرقی و بدون آسیب زدن به کمر خود، محفظه را کاملاً خالی کنید یا کیسه پلاستیکی/کیسه فیلتر نمدی پر شده را دور بیندازید.
- برای کشیدن یا جلو راندن جاروبرقی، ترمز چرخ‌های گردان (18) را آزاد کنید.
- برای جلو راندن یا کشیدن جاروبرقی، فقط از دسته فرمان بیرون آمده (39) استفاده کنید.
- جاروبرقی نباید با استفاده از دسته فرمان روی پله‌ها کشیده شود. برای این کار باید از دسته حمل و نقل استفاده شود.
- برای مقابله با خطر احتمالی سقوط جارو برقی هنگام حمل آن را روی پله‌ها، مطمئن شوید که افراد دیگری مستقیماً پشت سر شما نباشند.

رفع ایرادها

- ◀ در صورت بروز اختلال (مانند شکستگی فیلتر) بایستی جاروبرقی را فوراً خاموش کرد. قبل از راه اندازی مجدد بایستی رفع اشکال شود.

کرد، دفع نمود. این قطعات را باید در کیسه‌های سر بسته طبق مقررات مربوط به دفع اینگونه زباله‌ها دفع کرد.

- بدنه جاروبرقی را گاه به گاه با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

تميز کردن محفظه گرد و غبار

محفظه (1) را هر چند وقت یکبار با مواد شوینده غیر ساینده موجود در بازار تمیز کنید و بگذارید خشک شود.

تميز کردن/تعویض فیلتر پره ای تخت (رجوع کنید به تصویر N-O)

◀ هنگام باز کردن درپوش فیلتر، زبانه قفل را بگیرید و دقت کنید که درپوش فیلتر باز شده در حالت عمودی قفل شود. در صورت افتادن درپوش فیلتر، خطر وارد آمدن جراحت وجود دارد. توان مکش به وضعیت فیلتر بستگی دارد. بنابراین فیلتر را مرتب تمیز کنید.

فیلتر پره ای تخت (31) آسیب دیده را سریع تعویض کنید.

- زبانه قفل (24) را بکشید و درپوش فیلتر (40) و را به سمت بالا بچرخانید تا در حالت عمودی قفل شود.

- فیلتر پره ای تخت (31) را از لبه‌ها بگیرید و آن را از بالا بیرون بکشید.

- هر گونه گرد و غبار و آلودگی ناشی از بیرون آوردن فیلتر پره ای تخت (31) را با یک دستمال مرطوب، از لبه‌های محفظه (1) پاک کنید.

- درپوش پره ای تخت را می‌توان با آب روان شستشو داد.

- یک فیلتر پره ای تخت (31) جدید یا فیلتر تمیز شده را قرار دهید و از قرارگیری محکم و صحیح آن مطمئن شوید.

- درپوش فیلتر (40) را ببندید تا به طور محسوس جا بیفتد.

تميز کردن فیلتر اولیه (رجوع کنید به تصویر P)

◀ فیلتر اولیه را نباید به حالت مرطوب تمیز کرد. برای باز کردن درپوش فیلتر اولیه، دست خود را از بالا از بین دسته فرمان و جاروبرقی رد نکنید. در غیر این صورت ممکن است دستتان گیر کند.

دسته فرمان (39) را به سمت بالا بکشید تا درپوش فیلتر اولیه از قسمت عقب آزادانه در دسترس باشد. دکمه آزادکننده قفل (26) فیلتر اولیه (25) را فشار دهید و آنرا از محفظه فیلتر اولیه خارج کنید.

فیلتر اولیه (41) را بیرون بیاورید.

پره‌های فیلتر اولیه را با یک برس نرم پاک کنید.

فیلتر اولیه را در درپوش فیلتر (25) قرار دهید.

درپوش فیلتر اولیه (25) را در محفظه فیلتر اولیه قرار دهید و آنرا ببندید.

راه حل

ایراد

توربین جاروبرقی کار نمی‌کند. کابل برق، دوشاخه، فیوز، پریز و حسگرهای وضعیت ظرفیت (42) را کنترل کنید.

کلید اصلی (2) روی "شروع/توقف خودکار" قرار دارد.

ایراد	راه حل
	کلید اصلی (2) را روی علامت "مکش" قرار دهید یا ابزار برقی متصل شده به پریز (4) را روشن کنید.
توربین جاروبرقی خاموش می شود.	در حین مکش تُر، نشانگرهای LED A و M به آرامی و همزمان چشمک می زنند. محفظه (1) را تخلیه کنید.
	در حین مکش خشک، نشانگرهای LED A و M سریع و همزمان چشمک می زنند: حفاظت از اضافه بار پریز جاروبرقی فعال شده است. ابزار برقی را خاموش کنید.
	بار اضافی روی جاروبرقی به دلیل تجاوز از حداکثر ظرفیت مجاز پریز روی جاروبرقی: فیوز محافظ موتور فعال شده است. جاروبرقی را به یکی از مراکز مجاز Bosch خدمات مشتریان ارسال کنید.
پس از تخلیه محفظه، توربین جاروبرقی دوباره راه اندازی نمی شود.	جاروبرقی را خاموش کنید و 5 ثانیه منتظر بمانید، پس از 5 ثانیه دوباره آن را روشن کنید. حسگرهای میزان پر شدن (42) و همچنین فضای بین آنها (42) را با یک برس تمیز کنید.
	گرفتگی های نازل مکش، لوله مکش، شیلنگ مکش (27) یا فیلتر پره ای تخت (31) را برطرف کنید. کیسه پلاستیکی (29)/کیسه فیلتر نمدی (37) را تعویض کنید. درپوش فیلتر (40) را درست جابز کنید.
	توان مکش کاهش یافته است. قسمت بالای جاروبرقی (12) را درست قرار داده و قفل ها (15) را ببندید. فیلتر پره ای تخت (31) را تعویض کنید.
خروج گرد و غبار هنگام مکش	نصب صحیح فیلتر پره ای تخت (31) را کنترل کنید. فیلتر پره ای تخت (31) را تعویض کنید.
توقف خودکار (مکش تُر) فعال نمی شود.	حسگرهای میزان پر شدن (42) و همچنین فضای بین آنها (42) را با یک برس تمیز کنید. میزان پر شدن را به طور مداوم کنید.
تمیزکاری خودکار فیلتر کار نمی کند.	جاروبرقی را با فشار دادن دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (7)، در حالت تمیز کردن دستی قرار دهید. در صورت تداوم مشکل، با مرکز خدمات مجاز مشتریان Bosch تماس بگیرید.
تمیز کردن دستی فیلتر نمی تواند فعال شود.	محافظ گرمای بیش از حد جاروبرقی فعال شده است. 10 بار فشار دادن مداوم دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (7) باعث فعال شدن محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود. محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از 20 ثانیه به طور خودکار غیرفعال می شود. 30 بار فشار دادن مداوم دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (7) باعث فعال شدن محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود. محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از 4 دقیقه به طور خودکار غیرفعال می شود. در صورت تداوم مشکل، با مرکز خدمات مجاز مشتریان Bosch تماس بگیرید.
تمیزکاری خودکار فیلتر فعال نمی شود.	با مرکز مجاز خدمات مشتریان Bosch تماس بگیرید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشه های سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میابید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سئوالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.
برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس
میدان ونک، خیابان شهید خدای، خیابان آفتاب
ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.
تهران 1994834571
تلفن: 9821+ 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه ببینید:


www.bosch-pt.com/serviceaddresses

از رده خارج کردن دستگاه

چارو برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق
مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت
شوند.

مکنده را داخل زباله دان خانگی
نیاندازید!





2 608 000 889



2 608 000 886



2 608 000 585




2 608 000 769



2 608 000 887



2 608 000 661



2 608 000 797




2 608 000 806




2 608 000 890



2 608 000 888



2 608 438 691



2 608 000 903



2 608 000 891



5 m
4 m



22 mm
28 mm



2 608 000 568
2 608 000 885